

مُسند کتب فقہ کے حوالوں کے ساتھ مفہوم اور لذتیں سلسلہ

جَنِيدُون فَقْدَى مَسَايِّلُون

”براقبل قدر کام سے“

مولانا ابوالحسن علیہ رحمة ویضی و علیہ

قولنا خالد سيف الله الرحمن

نہ مزکر پبلش کرنے

مُتَنَزَّهُ مِنْ فَقْهِ الْوَالِيْنَ

بِحَلِيلِ نَظَرِيْنَ شَدَّهَا يَلِيْشِنَ

جَلِيلِ فَقْهِيْ مَسَائِلِ

جلد سوم

”بِرَا قَابِلِ قَدْرِ كَامِ هے۔“

مَوْلَانَا أَبُو الْمَسْعَدِ عَلِيٌّ وَيْسَرِيْ عَلِيِّ اللَّهِ

مَوْلَانَا خَالِدِ سَيِّفِ الدِّينِ الْحَمَانِيِّ

صَدِرَ مَدْرَسَةُ دَارِ الْعُلُومِ سَيِّلِ اِسْلَامِ . حِيدَرَ آبَادَ

ناشر

زمزم پیشتر

نردمقدس مسجد ازدواج بازار کاغذی

جملہ حقوقی ناشر محفوظ افغان

”جدید ہی مسائل“ کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت پاکستان میں صرف مولانا محمد فیض بن عبدالجید مالک زمزمر پبلیشورز کا لفظ
کو حاصل ہے لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر زمزمر پبلیشورز کو قانونی
چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از مولانا خالد سیف التدریحی

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی زمزمر پبلیشورز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے شمول فونڈ کاپی بر قیاتی یا میکانیکی یا کسی اور ذریعے سے
نقل نہیں کیا جاسکتا۔

ملنے پڑے کی یکڑتے

- کتبخانہ الحلم، اردو بازار کراچی - فون: 32726509
- کتبخانہ الرحمہ تی، اردو بازار کراچی
- دارالاشرافت، اردو بازار کراچی
- قدری کتب خانہ بال تعالیٰ آرام باغ کراچی
- کتبخانہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور

کتاب کا نام — جدید ہی مسائل جلد سو

جدید صحیح شدہ ایڈیشن

تاریخ اشاعت — جون ۲۰۱۶ء

باہتمام — اخبار زمزمر پبلیشورز

ہٹر — زمزمر پبلیشورز کا لفظ

AL FAROOQ INTERNATIONAL
68, Astordby Street Leicester LE5-3QG
Tel : 0044-116-2537840

AZHAR ACADEMY LTD.
54-68 Little Ilford Lane
Manor Park London E12 5QA
Phone: 020-8811-9797

ISLAMIC BOOK CENTRE
119-121 Halliwell Road, Bolton BL1 3NE
U K
Tel/Fax : 01204-389080

MADRASSAH ARABIA ISLAMIA
1 Azaad Avenue P.O Box 9786-1750
Azaadville South Africa
Tel : 00(27)114132786

شاہزادب سندرز مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون: 021-32760374

ٹکس: 021-32725673

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com



فہرست مضمایں

۳۶	۱..... عرض ناشر
۳۷	۲..... ابتدائیہ
۳۸	۳..... خبہ کے لفظ
۴۰	۴..... اشتراط فی النکاح
۴۲	۵..... سوالنامہ
۴۳	۶..... نکاح میں شرط کی تین صورتیں ہیں:
۴۴	۷..... پہلی حرم
۴۵	۸..... دوسری حرم
۴۶	۹..... تیسرا حرم
۴۷	۱۰..... مکریں اور ان کے دلائل
۴۸	۱۱..... محبین اور ان کے دلائل
۴۹	۱۲..... فریقین کے دلائل پر ایک نظر
۵۰	۱۳..... تفویض طلاق کا مسئلہ
۵۱	۱۴..... دوسری صورت
۵۲	۱۵..... بیوی کو تفویض طلاق
۵۳	۱۶..... تیسرا صورت
۵۴	۱۷..... دارالفقہاء کو تفویض
۵۵	۱۸..... دو حالتوں کے ساتھ مشروط میرکی مقدار
۵۶	۱۹..... امام ابوحنیف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور صاحبین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا نقطہ نظر
۵۷	۲۰..... عورت کی طرف سے ملزمت کی شرط
۵۸	۲۱..... خلاصہ جوابات
۵۹	۲۲..... مسئلہ کفاءت پر ایک نظر
۶۰	۲۳..... ۱) کفاءت فی الدین
۶۱	۲۴..... ۲) کفاءت فی الحرثیۃ
۶۲	۲۵..... ۳) مال میں کفاءت
۶۳	
۶۴	
۶۵	
۶۶	
۶۷	
۶۸	
۶۹	
۷۰	
۷۱	
۷۲	
۷۳	
۷۴	
۷۵	
۷۶	
۷۷	
۷۸	
۷۹	
۸۰	

۱۰۸	جمهور کے دلائل جمهور کی دلیلیں	۸۱	جمهور کے دلائل پر ایک نظر احاف کے دلائل پر ایک نظر
۱۰۹	جمهور کے دلائل پر ایک تقدیم نظر ترجیح	۸۲	موجودہ حالات کا تقاضہ مالکیہ کا مسلک
۱۱۰	متاخرین احاف کا عمل خلاصہ بحث	۸۳	شافعی کا مسلک حنابلہ کا مسلک
۱۱۱	تامردی اور جنسی حق سے محرومی کی بناء پر فتح نکاح ..۳	۸۴	مہلت کی مدت کلمہ آخر
۱۱۵	پہلے سے تامردی سے باخبر ہو مفقود اخیر	۸۵	مفقود اخیر اور غائب شخص کی بیوی کا حکم مفقود اخیر
۱۱۶	نکاح کے بعد رضامندی کا اظہار کروئے مفقود اخیر شخص کی بیوی	۸۶	مفقود اخیر کی بیوی پہلے گروہ کے دلائل
۱۱۷	ایک دفعہ مبادرت کے بعد دوسرے گروہ کے دلائل	۸۷	دوسرے گروہ کے دلائل طرفین کے دلائل پر ایک نظر
۱۱۸	دلائل کی روشنی میں مفقود اخیر کا فتویٰ	۸۸	متاخرین احاف کا فتویٰ مفقود اخیر کا طریقہ
۱۱۹	ضرر پہنچانے کے لیے قصہ اجماع نہ کرے شوہر نفقہ نہ چھوڑے یا عصمت کا اندر یہ ہوا!	۸۹	احادیث مفقود اخیر شخص کی واپسی
۱۲۰	فقدماں کی تفصیلات غائب غیر مفقود کا حکم	۹۰	خلع میں قاضی اور حکم کے اختیارات مفقود اخیر
۱۲۱	فقہاء کی رائیں مفقود اخیر اور ظلم و زیادتی کی بناء پر فتح نکاح ..۱۰۱	۹۱	امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل طرفین کے دلائل پر ایک نظر
۱۲۲	احاف کے دلائل متاخرین احاف کا فتویٰ	۹۲	احادیث شوہر نفقہ نہ چھوڑے یا عصمت کا اندر یہ ہوا!
۱۲۳	امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل مفقود اخیر شخص کی واپسی	۹۳	آثار صحابہ رضویین غائب غیر مفقود کا حکم
۱۲۴	احادیث زد و کوب اور ظلم و زیادتی کی بناء پر فتح نکاح ..۱۰۱	۹۴	امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل مفقود اخیر اور ظلم و زیادتی کی بناء پر فتح نکاح ..۱۰۱
۱۲۵	آثار صحابہ رضویین ہندوستان میں!	۹۵	احادیث ضرب بمرح
۱۲۶	احادیث فقدماں کی تفصیلات	۹۶	آثار صحابہ رضویین امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵
۱۲۷	آثار صحابہ رضویین فقدماں کی تفصیلات	۹۷	احادیث فقہاء کی رائیں
۱۲۸	احاف کے دلائل کا تجزیہ امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۹۸	احادیث امراض و عیوب
۱۲۹	احاف کے دلائل کا تجزیہ امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۹۹	احادیث امراض و عیوب
۱۳۰	فقدماں کی تفصیلات امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۱۰۰	احادیث امراض و عیوب
۱۳۱	حالات نشر کی طلاق ہندوستان میں!	۱۰۱	احادیث امراض و عیوب
۱۳۲	فقہاء کی رائیں ضرب بمرح	۱۰۲	احادیث امراض و عیوب
۱۳۳	احاف کا مسلک فقدماں کی تفصیلات	۱۰۳	احادیث امراض و عیوب
۱۳۴	پہلے گروہ کے دلائل امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۱۰۴	احادیث امراض و عیوب
۱۳۵	دوسرے گروہ کے دلائل امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۱۰۵	احادیث امراض و عیوب
۱۳۶	طریقین کے دلائل پر ایک نظر امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۱۰۶	احادیث امراض و عیوب
۱۳۷	ازدواج اطلاق نافذ امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح ..۱۰۵	۱۰۷	احادیث امراض و عیوب

۱۳۱.....	ویراہل علم.....	۱۳۵.....	ماحول و حالات کا تقاضہ.....
۱۳۱.....	ماضی بعید کی نظریں.....	۱۳۶.....	ہندوستان اور نظام قضاۓ.....
۱۳۲.....	برطانوی عہد میں نصب قاضی.....	۱۳۶.....	علماء کی کوششیں.....
۱۳۲.....	پس چہ باید کرو؟.....	۱۳۷.....	ایک اہم سوال.....
۱۳۲.....	اصل چیز ایمانی قوت ہے.....	۱۳۷.....	قرآن کی ہدایت.....
۱۳۳.....	قوتو نافذہ کی فقیہی حیثیت.....	۱۳۹.....	شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کا فتویٰ.....
۱۳۸.....	علماء ہند کی رائیں.....	۱۳۹.....	ماضی کی نظریں.....
۱۴۰.....	بر اور ان اسلام کے نام.....	۱۴۰.....	علام ابن حام رحمہم اللہ تعالیٰ کی رائے.....
۱۵۰.....	تعزیر مالی کا مسئلہ.....	۱۴۰.....	بزاری کی صراحت.....
۱۵۱.....	انکار کی وجہ.....	۱۴۰.....	دین نجم رحمہم اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر.....
۱۵۱.....	تعزیر مالی کے دلائل و نظریات.....		



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عرض ناشر

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک کامل شریعت ہے۔ خلائقِ نظرت نے ہر دور میں انسانی ضروریات بھی پیدا کی ہیں اور ان کا حل بھی پیدا فرمایا۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کی کامیابی ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے اور ایسی کامل و اکمل شریعت اتاری ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ ہر دور کے ہر مسئلہ کا حل اس میں موجود ہے۔ جسے علماء نے بوقت ضرورت امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ زیرِ نظر کتاب ”جدید فقہی مسائل“ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جسے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زید مجدد (حیدر آباد دکن انڈیا) نے بڑی عرق ریزی اور محنت شاقہ سے مرتب فرمایا ہے۔

یہ کتاب درحقیقت بہت سے جدید مسائل کا حل ہے اس میں حضرت مصنف نے مختلف جدید مسائل پر تحقیقی مقالات مرتب کئے ہیں اور یہ نہایت قابل قدر کام ہے اور حضرات مفتیان کرام کے لئے مسائل کے حل میں بہت سے لوازمات مہیا ہو گئے ہیں۔ چونکہ حضرت مصنف نے یہ خالص علمی مضمایں جمع کئے ہیں اس لئے عامۃ الناس ان کو حضرات علماء کرام و مفتیان عظام سے سمجھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے پیش آمدہ جدید مسائل میں عمل پیرا ہوں۔

حضرت مصنف صاحب کی اجازت سے پاکستان میں پہلی بار جدید کمپوزنگ کے ساتھ زمزم پبلیشورز اس کو پانچ جلدیوں میں پیش کرتے ہیں۔

”محمد رفیق عبدالجید“

۲۱ محرم ۱۴۳۶ھ

ابتداء سیمہ

جدید فقیہ مسائل کا دوسرا حصہ جب پہلی بار سن ۱۳۰۵ھ میں طبع ہوا تھا تو اس کا بنیادی موضوع معاشرتی مسائل ہی تھا، بعد میں اس حصہ میں کچھ دوسرے مسائل کا بھی اضافہ کر دیا گیا؛ پھر کچھ اہل علم کی رائے ہوئی کہ جدید فقیہ مسائل کا تو ایک ہی حصہ رہے جس میں اختصار کے ساتھ ضروری نئے مسائل کا ذکر ہو اور دلائل کی صرف اشارہ ہو، ایسے مسائل درج نہ کیے جائیں جس میں علماء کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور تفصیل سے روشنی الی گئی ہے، اور جن مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، ان تحریروں کو اللہ الگ عنوان کے تحت مرتب کیا جائے، تاکہ لوگ اپنے ذوق کے مطابق ان سے استفادہ کر سکیں۔

چنانچہ اب کتاب کے دوسرے حصہ کو چاراللگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے؛ جو عبادات، معاشرت، معاشرتی مسائل اور مسید یکل مسائل سے متعلق ہیں، ان میں سے ہر عنوان سے متعلق متعدد نئے مقالات بھی ان مجموعوں میں شریک اشاعت ہیں اسلام اور جدید معاشرتی مسائل میں مشروط مہر، تفویض طلاق اور نکاح کے ساتھ شرطیں، نیز ہندوستان میں نظام قضاء کے موضوع پر جو تحریریں ہیں، وہ پہلی بار اس مجموعہ میں شریک اشاعت کی جا رہی ہیں۔

جدید فقیہ مسائل حصہ دوم کے طبع اول کے لیے راقم الحروف نے جو افتتاحیہ لکھا تھا، اس میں زیادہ تر معاشرتی مسائل سے متعلق مباحثت ہی کو مخوذ رکھ کر کچھ اصولی گفتگو کی گئی تھی؛ اس لیے وہ افتتاحیہ بھی اسی مجموعہ کے پتھ شامل اشاعت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع فرمائے اور یہ عند اللہ بھی مقبول ہو اور عند الناس بھی۔

واللہ الموفق وهو المستعان

مہفوظ

خالد سینف اللہ رحمانی



سخنلہائے گفتني

جدید فقہی مسائل میرے نزدیک تین طرح کے ہیں: ایک وہ جو اس زمانہ کی کسی خاص ایجاد اور اختراع کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یا موجودہ معاشری، سماجی اور سیاسی نظام اور رواج کی دین ہیں۔ ان کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے قدیم ذخیرہ کو سامنے رکھ کر ان کے نظائر تلاش کیے جائیں اور ان کو ان جدید مسائل پر منطبق کیا جائے۔ اس کو علماء اصول نے ”تحقیق مناط“ سے تعبیر کیا ہے، اور اس کو اجتہاد کی ایسی قسم قرار دیا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ راقم الحروف نے ”جدید فقہی مسائل“ کے پہلے حصہ میں اپنے ناقص مطالعہ اور قاصر علم و فہم کے مطابق یہی خدمت انجام دینے کی سعی کی ہے۔

دوسرے قسم کے مسائل وہ ہیں جو اپنے قوع کے اعتبار سے نہیں ہیں، لیکن عرف و عادت، سماجی و اخلاقی حالات اور اسلامی تعلیمات، شریعت کے مزاج اور جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان میں مناسب، محتاط اور ضروری تغیر گوار کیا جائے۔ اس دوسرے حصہ میں، میں نے انہی بحثوں کو چھیڑا ہے اور پوری پوری کوشش کی ہے کہ اعتدال و توازن کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔

اس سلسلہ کا تیرا کام یہ ہے کہ جدید معاشری نظام نے بعض ایسے اداروں کو جنم دیا ہے جو موجودہ صنعتی اور سائنسیک دنیا کے لیے ایک ”ضرورت“ بن گئے ہیں؛ جن میں بینک اور انشورنس کو سرفہرست رکھا جاسکتا ہے، مگر قسمتی سے اس وقت اسکیم سازی اور معاشری لظم نق کی لگام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو مذہب اور مذہبی افکار و تصورات، نیز مذاہب کے تسلیم شدہ اخلاقی معيارات سے نہ صرف یہ کہ دور ہیں بلکہ ان سے بیزار بھی ہیں، اس لئے طبعی طور پر ان کے یہاں سے جو بھی اسکیم آتی ہے، اس میں ایسے عناصر بھی رہتے جن کو اسلام پسند نہیں کرتا، جیسے بینک میں سودا اور انشورنس میں سودا اور قمار۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی اسکیمیوں کا اسلامی متبادل پیش کیا جائے اور اس موضوع پر جن حضرات نے کچھ بھی غور کیا ہے، ان کے لیے اس کا اندازہ کرنا چندان مشکل نہیں ہے کہ اسلام کا نظام معیشت جدید تقاضوں کا ساتھ دینے کا پوری طرح اہل ہے اور آسانی کے ساتھ ان محرومتوں سے بچا کر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ایسے ادارے چلانے جاسکتے ہیں؛ تاہم اس پر قلم اٹھانے کا حق ان لوگوں کو ہے جو ایک طرف کتاب و سنت اور فقہاء اسلام کے اجتہادات پر بھی نظر رکھتے ہیں اور دوسری طرف جدید معاشری نظام پر بھی ان کی عمیق اور گہری

نظر ہوا وہ ان دونوں کی روح اور اصل کو پوری طرح جذب کر چکے ہوں۔ راقم الحروف اس لحاظ سے اس کا اہل بھی نہیں، اور دوسرے مختلف اردو اور عربی اہل قلم اور معاشریات کے متخصصین نے اس موضوع پر وقوع کام کر دیا ہے اور اب اس کے کامیاب، ثمر آور اور مفید عملی تجربات بھی ہو رہے ہیں، ان حالات میں اس کی کچھ زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔

جدید تقاضوں کے تحت فقہ کی بعض جزئیات میں تغیرائی بات ہے جو اکثر اہل علم کو بجا طور پر توش میں بتلا کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں تجدی پسندوں کی ایسی جماعت گھات لگائے بیٹھی ہے جس نے اپنے فکر و عقیدہ کا کعبہ و قبلہ مغرب کو بنار کھا ہے اور ان کا اسلام۔ یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ۔ مخف خاندانی یا پھر جغرافیائی ہے۔ ان کے نزدیک عصری تقاضوں کی رعایت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کی طرح صرف عبادات اور کچھ مذہبی رسوم کی حد تک اسلام کو تھامے رہیں اور رہ گئی معاشرت، معیشت اور سیاست، تو اس میں کامل اشرح قلب اور طہانتی خاطر کے ساتھ مغرب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کے لیے اولاً فقہ کے قدیم ذخیرہ کو دریا برد کر دیں، پھر حدیث اور سنت کو خیر باد کہہ دیں، اس کے بعد قرآن، جہاں اس مقصد میں رکاوٹ ڈالتا محسوس ہو کوئی تاویل کر ڈالیں، خواہ وہ عقل و نقل سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتی ہو اور جہاں کوئی تاویل نہ بن پڑے وہاں عصری تقاضوں کے نام پر تغیر کو گوارا کریں اور اس تراش و خراش کے بعد غریب اسلام کی جو گستہ بنے اس کو ترقی پسندی، روشن خیالی، تجدید اور اصلاح وغیرہ کا دیدہ زیب اور لفربیب عنوان دے دیں۔

راقم الحروف کے نزدیک یہ "فلک و مزاج" صریح طور پر دین میں تحریف اور تصحیف ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے۔ دراصل شریعت کے احکام تین طرح کے ہیں: قطعی، اجتہادی اور مصلحتی۔ قطعی سے مراد وہ احکام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں اور قرآن و حدیث اس معاملہ میں بالکل یک زبان ہو یا جس پر امت کا اجماع واتفاق ہو؛ ان میں تغیر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے بلکہ ان میں "تغیر" اکثر اوقات انسان کو کفر تک پہنچادیتا ہے۔

دوسرے احکام "اجتہادی" ہیں، جن میں نصوص میں بظاہر اختلاف اور تعارض محسوس ہوتا ہو، یا شریعت کی دو الگ الگ نظریں، دو بالکل متفاہد احکام کی متقاضی ہوں، جیسے مفقود الخبر کی بیوی کا مسئلہ ہے، حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ چار سال انتظار کے بعد نکاح فتح کر دیا جائے، حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ پوری زندگی انتظار کرے، پھر اسی اختلاف کی وجہ سے فقهاء کی رائیں بھی مختلف ہیں۔ ان احکام میں اگر کسی زمانے میں کسی خاص مكتب فقہہ کی کسی رائے پر عمل کرنا دشوار ہو جائے اور دوسری رائے کی طرف عدول کرنا ایک ضرورت اور مجبوری بن جائے تو یہ عدول جائز ہو گا، جیسا کہ سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔

تیرے مصلحتی احکام ہیں، جو اپنے زمانے کی مصلحت اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے متعین کیے ہوں وران کی آراء کا مدار اپنے زمانہ کے عرف، اخلاقی و سیاسی حالات اور لوگوں کے اطوار و عادات پر ہو۔ ان مسائل میں عرف و حالات کی تبدیلی کی صورت رائے میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ علامہ شامی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ لَدُنْ عَالَمٍ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ”نشر العرف“ لکھی ہے اور فقہاء نے مختلف مسائل میں اس اصول پر عمل کرتے ہوئے لکھا ہے: ”لو کان أبو حنيفة لقال كذا“ کہ یہ رائے گو کہ امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ لَدُنْ عَالَمٍ کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو آج وہ بھی یہی کہتے۔

یہی دوسرے اور تیرے قسم کے احکام ہیں جن کی بعض جزئیات پر اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کردیجی نامناسب نہ ہوگی کہ حالات اور ضروریات کی بناء پر۔ نہ کہ حرص و ہوس کی بناء پر۔ بعض احکام میں کسی دوسری فقہ کی طرف عدول کر جانا تقلید اور اصول تقلید کے منافی نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین سے تو بعض جگہ دلائل کی قوت کی وجہ سے بھی عدول ثابت ہے۔

خود اسی کتاب میں مفقود الخبر کی بحث میں فقہاء کی یہ عبارت آئے گی کہ ضرور تا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ لَدُنْ عَالَمٍ کی رائے پر فتویٰ دینے میں مصالحتہ نہیں ہے۔ ”فلو أفتی به في موضع الضرورة ينبغي ألا يأس به۔“

مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ لَدُنْ عَالَمٍ لکھتے ہیں:

”فَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ يَخْتَلِفُ بِالْخِتَالِفِ الْزَمَانِ لِتَغْيِيرِ عَرْفِ أَهْلِهِ أَوْ حَدُوثِ ضَرُورَةٍ أَوْ فَسَادِ أَهْلِهِ بِحِيثِ لَوْ بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ لَلْزَمَ مِنْهُ الْمَشْقَةُ وَالضُّرُورَ بِالنَّاسِ وَلِخَالِفِ الْقَوَاعِدِ الشَّرِعِيَّةِ الْمُبَنِيَّةِ عَلَىٰ التَّخْفِيفِ وَالتَّيسِيرِ وَدُفْعِ الضَّرِرِ وَالْفَسَادِ لِبَقَاءِ الْعَالَمِ عَلَىٰ أَتْمِ نَظَامٍ وَأَحْسَنِ أَحْكَامٍ“
تَرْجِمَة: ”بہت سے احکام ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدلت جاتے ہیں، اس لیے کہ اہل زمانہ کا عرف بدلت جاتا ہے، نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اہل زمانہ میں فساد (اخلاق) پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر حکم شرعی پہلے ہی کی طرح باقی رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہو جائے گا اور ان شرعی اصول و قواعد کے خلاف ہو جائے گا جو سہولت و آسانی اور نظام کائنات کو بہتر اور عمده طریقہ پر رکھنے کے لیے ضرر و فساد کے ازالہ پر مبنی ہیں۔“

ای طرح متاخرین علماء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ لَدُنْ عَالَمٍ کے یہاں مصالح اور دلائل

کی بنا پر مختلف احکام میں مختلف فقہ سے استفادہ کی صورتیں کثرت سے نظر آتی ہیں؛ یہی بات حنابلہ میں حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَرَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَلَکَ شَفَاعَةٌ کے یہاں بھی ملتی ہے۔ بعض اہل علم کے یہاں اس کی صراحت ملتی ہے کہ اگر جزوی طور پر کسی ضرورت یاد لائل شرعیہ کی بناء پر۔ نہ کہ ہوں کی بناء پر۔ کسی دوسرے دوستان فقہ کی رائے قبول کر لی جائے تو مضائقہ نہیں۔ علامہ شربیلی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَرَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَلَکَ شَفَاعَةٌ لکھتے ہیں:

”فتححصل مما ذكرناه أنه ليس على الانسان التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل بما يخالف ماعمله على مذهبة مقلدا فيه غيره مستجمنا شروطه الخ.“

ترجمہ: ”جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پر ایک ہی متعین مذهب کی پیروی کا التزام کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ کہ اس کے لیے مخالف مذهب پر اس خاص مسئلہ میں اس کی تقليد کرتے ہوئے (بشرطیکہ اس خاص مسئلہ میں اس مذهب کی تمام شرطوں کی رعایت کی گئی ہو) عمل کرنا جائز ہے۔“

اور صاحب ”مسلم الثبوت“ لکھتے ہیں:

”ثُمَّ إِلَّا شَبَهَ أَنْ عَمَلَ بِتَحْرِيِّ قَلْبِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَنْهُ مَا دَامَ ذَلِكَ وَهُلْ يَقْلِدُ غَيْرَهُ فِي غَيْرِهِ؟ الْمُخْتَارُ، نَعَمْ لِمَا عَلِمْ مِنْ اسْتَفْتَانَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأُخْرَى غَيْرَهُ“

ترجمہ: ”پھر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اپنے قلب کی تحری کے مطابق عمل کرے تو جب تک قلب کا رجحان اس طرف رہے اس سے رجوع نہ کرے، لیکن کیا کسی دوسرے مسئلہ میں دوسرے فقیہ کی تقليد کر سکتا ہے؟ زیادہ پسندیدہ قول ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ (صحابہ کے عہد میں) لوگ کبھی ایک شخص سے استفتاء کرتے تھے اور کبھی دوسرے سے۔“

عاصم بن یوسف رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَرَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَلَکَ شَفَاعَةٌ (متوفی ۲۱۰ھ) جن کا شمار رجال احتاف میں ہوتا ہے، وہ رفع یدين کے مسئلہ میں شوافع کے ہم خیال تھے۔ خاتم الفقهاء حضرت مولانا عبدالحی کھنڈی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَرَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ وَلَکَ شَفَاعَةٌ (متوفی ۱۳۰۲ھ) ان کا مسلک نقل کر کے لکھتے ہیں:

”وَيَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ الْحَنْفِيَ لَوْ تَرَكَ فِي مَسَأَلَةِ مَذَهَبِ اِمَامِهِ لِقَوْةِ دَلِيلِ خَلَافَ لَا يَخْرُجُ عَنْ رِبْقَةِ التَّقْلِيدِ بَلْ هُوَ عِنْ التَّقْلِيدِ فِي صُورٍ يَخْرُجُونَهُ عَنْ مَقْلُدِيهِ. وَلَا عَجْبٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْعَوَامِ، أَمَّا الْعَجْبُ مِمَّنْ يَتَشَبَّهُ بِالْعُلَمَاءِ“

ویمشی مشیتہم کالانعام۔ ”^۶

ترجمہ: ”اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی حنفی اگر کسی مسئلہ میں دوسروں کی دلیل کی قوت کی وجہ سے اپنے امام کا مسلک چھوڑ دے، تو اس کی وجہ سے وہ دائرة تقلید سے نہیں نکلے گا، بلکہ یہ ”ترک تقلید“ کی صورت میں ”عین تقلید“ ہے۔ یہی عاصام بن یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کو دیکھو کہ رفع یہ دین نہ کرنے کے باب میں انہوں نے امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا مسلک چھوڑ دیا ہے، اس کے باوجود ان کا شمار احناف ہی میں ہوتا ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، جو ہمارے اصحاب نے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے دو قلم پانی کے پاک ہونے کے سلسلہ میں ایک دن امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی تقلید کر لی اور ہمارے زمانے کے جاہلوں کا گلہ خدا ہی سے ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ میں بھی دلیل کی قوت کی بناء پر اپنے امام کی تقلید نہ کرے تو وہ اس پر طعن کرتے ہیں اور ان کو مقلدین کی فہرست ہی سے نکال دیتے ہیں اور ان پر کوئی تعجب نہیں، کہ وہ تو عوام ہیں، تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو علماء کی سی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں اور چوپائیوں کی طرح ان کی چال کی نقل کرتے ہیں۔“

علامہ لکھنؤی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے ”النافع الکبیر“ میں خود اپنی بھی یہی معتدل اور متوازن روشن قرار دی ہے۔ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى۔ جن لوگوں نے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى (متوفی ۱۳۵۲ھ) کو پڑھا ہے، وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ علماء دیوبند میں حضرت کشمیری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا بھی یہی طریقہ فکر ہے، انہوں نے خبر کی حقیقت، رفع یہ دین، آمین بالجہر، اذان میں ترجیع وغیرہ کے مسائل میں عام فقهاء احناف کے مقابلہ میں پچ دار اور اقرب من الحدیث رائے اختیار کی ہے۔

تاہم اس کتاب میں اصل بحث دلائل کی قوت وضعف اور اس کی معقولیت اور ترجیح سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف وہ مسائل پیش کیے گئے ہیں جو سماجی، سیاسی، معاشی یا دینی حالات و مصالح اور تغیر پذیر قدروں کے لحاظ سے توجہ کے محتاج ہیں۔ اب اس مجموعہ مضمایں میں صرف سماجی مسائل شریک اشاعت ہیں، دوسرے موضوعات سے متعلق تحریریں الگ الگ مجموعوں میں شامل کردیئے گئے ہیں۔ یوں میں نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ ان مسائل پر مختلف فقهاء اور اہل رائے کے دلائل بھی پیش کردیئے جائیں اور ان کی استدلالی حیثیت بھی واضح ہو جائے، لیکن اس کا مقصد کوئی ”حاکمہ“ نہیں ہے، کہ یہ ہم لوگوں کے مقام سے بہت اوپری چیز ہے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ زیر بحث مسئلہ علمی اور فقہی حیثیت سے قطعی نہیں ہے، ”مجتہد فیہ“ یا ”مصلحتی“ ہے

اور وقتی حالات و ضرورت کے تحت جو رائے اختیار کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اس پر دفعہ دلائل بھی موجود ہیں اور استدلالی اعتبار سے بھی ان کو معقولیت حاصل ہے اور وہ کتاب و سنت اور شریعت کی روح اور مزاج سے مغایرت نہیں رکھتے۔

اس کتاب کا اہم ترین حصہ وہ وجہہ و اسباب ہیں جو زوجین میں تفریق کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى (۱۳۲۲ھ) "الحبلة الناجزة" میں اور حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى (۱۳۹۳ھ) "كتاب الفسخ والتفریق" میں ان میں سے اکثر مسائل کو پیش کرچکے ہیں، لیکن ان کتابوں میں ایک تو دلائل تفصیل سے ذکر نہیں کیے گئے تھے، دوسرے اکثر مقامات پر معاصر مالکی علماء کے فتاویٰ کو مدار بنا یا گیا تھا؛ اس لیے میں نے اس کتاب میں دلائل اور فقہہ مالکی کی مستند کتب کے حوالے بھی جمع کر دیے ہیں، اور فقہہ مالکی کی جزوی تفصیلات کو مزید مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، نیز قضاۓ و فصل خصوصات کے اپنے تجربات کی روشنی میں دلائل کو سامنے رکھ کر ان میں بعض مزید تغیر کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ اس طرح چند ہی ایسے مسائل رو گئے ہیں جن کو ایک حد تک "نیا" کہہ سکتے ہیں اور اس کا اظہار بے محل نہ ہو گا کہ اس پر قلم اٹھانے کا محرك کوئی فکری آوارگی نہیں ہے، بلکہ قضاۓ کے کام سے وابستہ رہنے کی وجہ سے عملی تجربات اس کے اصل محرك ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل پر جذباتی ہوئے بغیر۔ سنجیدگی کیسا تھہ ثبت انداز میں غور کیا جائے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کی جائے اور ایسے مسائل پر غور کرتے ہوئے ان لوگوں میں جو مخفی اپنی تجدید پسندی میں پورے دین کا بخیہ اوہیزرنے میں مصروف ہیں اور ان لوگوں میں جو دین کے معاملہ میں مخلص ہیں اور دین کے حدود دار بعدہ میں رہتے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں، فرق ملحوظ رکھا جائے۔

اس کتاب کا تخلیل ایک عرصہ سے میرے ذہن میں تھا، ایک بار اس پر خاصاً مواد جمع کر کے پر قلم بھی کیا گیا، مگر وہ کسی طرح ضائع ہو گیا، دوبارہ کچھ تو تدریس و قضاء کی ذمہ داریوں کی وجہ سے عدمیم فرصتی اور کچھ موضوع کی نزاکت اور اس معاملہ میں اہل علم کے احساس کی ذکاوت کی وجہ سے اس کی نوبت نہ آسکی، حالانکہ اس درمیان کتاب کے پہلے دو ایڈیشن نکل کر ختم ہو گئے، آخر گز شہر شعبان میں طے کیا کہ اس رمضان المبارک میں یہ کام بھی کر گز رنا ہے۔ کیم رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ کو میں نے اس کا آغاز کیا اور ۱۰-تک اللہ کی مدود توفیق سے اس کی تکمیل ہو گئی اور قریب قریب پوری تحریر نماز تراویح اور سحر کے درمیان لکھی گئی۔ اس درمیان میں دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ قلم کو خطاء و زلت سے بچائے اور حق پر قائم رکھے۔

"رَبَّنَا لَا تُنَزِّعْ قَلْوَبَنَا بَعْدَ اذْهَبْنَا".

بحمد اللہ راقم الحروف کے قلم سے ایک درجن سے زیادہ کتابیں نقل چکی ہیں، جن میں بعض مطبوعہ اور بعض غیر مطبوعہ ہیں، اور ان میں سے اکثر کافقد جیسا خیک موضوع ہے، لیکن زیر نظر کتاب میں، میں نے جس قدر احتیاط پیش نظر کی ہے اور افتادیع کے خلاف بار بار پڑھا اور ترجمہ کیا، شاید کسی اور تحریر میں کیا ہو۔ خدا کرے میری یہ سعی رائیگاں نہ جائے اور اہل علم، ارباب افتاء، قضاء اور قانون داں حضرات کو اس سے کچھ فائدہ پہنچے۔

تاہم میرا خیال ہے کہ جو لوگ میری اس کتاب کا مطالعہ کریں، وہ میری ایک اور تحریر "جدید مسائل" کے حل کے لیے اصول اور طریق کا "ضرور پڑھیں۔ اب اس رسالہ کا خلاصہ "جدید فقہی مسائل" کے تازہ ایڈیشن (مطبوعہ: مکتبہ نعیمہ دیوبند) کے شروع میں شریک اشاعت ہے: جس میں میں نے اسلامی قانون کے تغیر پذیر اور غیر تغیر پذیر حصے، شریعت میں مطلوب مصالح اور ان کے درجات اور عصری تقاضوں کی رعایت کے باب میں اسلام کے اصول قانون اور کلیات نیز سلف صالحین کے طریق کا اور موجودہ زمانے میں شورائی اجتہاد اور قردن اولی میں اس کے نظائر پیش کیے ہیں اور جو دراصل جدید فقہی مسائل ہی کے "مقدمہ" کے بطور لکھا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللّٰهُمَّ جِئْنَاهُ كَرِيمُ بْنُ كَرِيمٍ بْنَ كَرِيمٍ سے کہلایا ہے: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّا رَءَى فِي السُّوءِ﴾، اب مجھے جیسے کم علم، قاصر الفہم اور غریق عصیان کا کیا شمار ہے؟ اس لیے اس تحریر میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، ان کے لیے خداوند قدوس کی بار گاہ میں عفو و درگذر کا ملتجی ہوں اور اہل علم سے مخلاصہ و دردمندانہ نصیح و مشورہ کا، اور دعا گو ہوں کہ اس میں جو باطن حق ہوں وہ قارئین کے دل و دماغ میں اتر جائیں اور جو باطن غلط ہوں ان پر خدا کی توفیق سے خود راقم سطور کو تنبہ کی توفیق میر آئے۔

وَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَبِهِ التَّوْفِيقُ، وَهُوَ الْمُسْتَعْنَى، وَعَلَيْهِ التَّكْلِافُ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَلْنَا، رَبَّنَا لَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا لَا تُحْمِلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، آمِينٌ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ.

خالد سیف اللہ رحمانی

۱۶ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ

بروز جمعرات (قبل نماز فجر)

بارکس، حیدر آباد

اشتراط فی النکاح

”ہندوستان کے سماجی حالات میں ازدواجی ابھنوں کے حل کے لئے اسلام فقہائی نے نکاح میں لگائی جانے والی شرائط اور مشروط مہر کے مسائل کو انھیا تھا اور آٹھویں فقہی سمینار منعقدہ ۲۳۔ اکتوبر ۱۹۹۵ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا یہ نہایت اہم موضوع تھا۔ جس پر طویل اور فکر انگیز مناقشہ بھی ہوا۔ اسی سمینار کے لئے یہ مقالہ لکھا گیا۔“

سوالنامہ

نکاح مرد اور عورت کے درمیان انجام پانے والا قابل احترام عقد ہے، جس سے عائلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعہ دو اجنبی مرد و عورت ایک ساتھ مودت و محبت اور اعتماد کی فضائیں زندگی گذارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام رشتہ نکاح کو پائیدار اور مشکلم دیکھنا چاہتا ہے؛ اسی لیے اس نے نکاح کے ساتھ ایسی شرطیں عائد کی ہیں جن کے نتیجہ میں رشتہ نکاح دائمی رفاقت کی شکل اختیار کر لے اور میاں بیوی کے عائلی حقوق کا پورا پورا تحفظ ہو سکے۔

نکاح کے نتیجہ میں میاں بیوی دونوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور دونوں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق و فرائض کو شریعت نے کلیٰ فریقین کی رضا مندی پر نہیں چھوڑا ہے کہ وہ دونوں عقد نکاح کرتے وقت اپنے حقوق و فرائض جس طرح چاہیں طے کر لیں، بلکہ مقاصد نکاح کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور دونوں کی فطرت و صلاحیت کو مد نظر رکھ کر دونوں کے کچھ حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمادیے، جن میں فریقین باہمی رضا مندی سے بھی رو بدل نہیں کر سکتے۔ اسلامی شریعت کی طرف سے میاں بیوی کے بعض بنیادی حقوق و فرائض کی تعمیں اس لیے کردی گئی ہے، تاکہ مضبوط فریق کمزور فریق کا اتحصال نہ کر سکے اور فریق ثانی کی کمزوری اور مجبوری دیکھ کر نکاح کے وقت اپنی من پسند شرطیں عائد کر کے اپنے فرائض سے گریز کی راہ نہ اپنائے۔ اس پس منظر میں ہمارے فقہاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں شرائط نکاح پر بحث کی ہے۔

عقد نکاح کے ساتھ عائد کردہ شرطوں کو ہم تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

① ایسی شرائط جن کے ذریعہ کسی فریق پر کوئی نئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ خود عقد نکاح سے جو ذمہ داری

کسی فریق پر عائد ہوتی ہو، اسی کو شرط کی صورت میں عقد نکاح کے وقت ذکر کر دیا گیا ہو مثلاً بیوی کا یہ شرط لگانا کہ اس کا نفقة شوہر کے ذمہ ہوگا۔

❶ نکاح کے وقت کسی فریق کا ایسی کوئی شرط لگانا جس کا مقصد نکاح سے پیدا ہونے والی کسی ذمہ داری سے گریز ہو مثلاً شوہر کا نکاح کے وقت یہ شرط لگانا کہ بیوی کا نان و نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔

❷ نکاح کے وقت کسی فریق کا کوئی ایسی شرط عائد کرنا جو (۱) اور (۲) میں سے کسی کے دائرہ میں نہیں آتی ہے، اس کے نتیجے میں کسی فریق کو ایسا حق حاصل ہوتا ہے جو غیر مشروط نکاح کی صورت میں حاصل نہیں ہوتا اور دوسرے فریق پر ایسی پابندی یا ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو غیر مشروط نکاح کی صورت میں عائد نہ ہوتی۔ مثلاً عورت کا یہ شرط لگانا کہ مرد اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہ کرے گا یا بیوی کو اس کے آبائی وطن ہی میں رکھے گا، وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ نہیں لے جائے گا۔

اوپر ذکر کردہ تینوں قسم کی شرائط کے بارے میں شریعت کا حکم مع دلائل مطلوب ہے۔

(الا): دوسری قسم کی شرط لگانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ ایسی شرط لگانے سے عقد نکاح پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر منعقد ہوتا ہے تو کیا اس شرط کی پابندی متعلقہ فریق کے لیے ضروری ہے؟ (ب): تیسرا قسم کی شرائط کا کیا حکم ہے؟ یہ شرطیں لازم الایفاء ہیں یا نہیں؟ ان سے عقد نکاح کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟

(ج): نکاح کے وقت اگر عورت یہ شرط لگائے کہ اسے اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا حق ہو گا یا فلاں فلاں شکلوں میں طلاق واقع کرنے کا حق ہو گا، اگر اس شرط کو تسلیم کرتا ہے، تو اس شرط کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کی وجہ سے عورت کو طلاق دینے کا اختیار شوہر کو باقی رہتا ہے یا نہیں؟

نکاح میں شرط کی تین صورتیں ہیں

❶ عقد نکاح سے پہلے شرائط طے ہو جائیں اور اس کی تحریر پر طرفین کا دستخط ہو جائے۔

❷ عقد نکاح میں ہی ان شرائط کا ذکر کیا جائے، ایجاد مشرط ہو یا ایجاد مطلق ہو اور قبول مشروط ہو۔

❸ عقد نکاح کے بعد مابین طرفین کوئی شرائط نامہ تحریر کیا جائے۔

ہر سے صورتوں کے کیا احکام ہوں گے اور شرعاً ان پر کیا پابندیاں ہوں گی؟ اس تفویض و اختیار کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے کیا قیدیں بڑھائی جاسکتی ہیں جو کہ جانبین کے لیے مفید ہوں اور بے جاستعمال کا سد باب کریں۔ مسئلہ کا ایک پہلو اور اہم ہے کہ شریعت نے طلاق کا اختیار شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے، تفویض کے نتیجے میں

یہ اختیار عورت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیا اس سے مصالح شرع کے ضائع ہونے کا اندریشہ تو نہیں؟ تو کیا مصالح کی حفاظت کے لیے اس تفویض کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے کچھ قیدیں بڑھائی جا سکتی ہیں؟ جو کہ مفید مقصد ہوں اور بے جا تصور کا سد باب کریں۔

طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور ساتھ ہی بعض ناگریز حالات میں ایک ضرورت بھی، لیکن اس کے غلط اور بے جا استعمال سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جن سے مرد و عورت اور خاندان سب متاثر ہوتے ہیں؛ لہذا طلاق کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اگر عقد نکاح کے وقت اس طرح مہر طے کیا جائے کہ اگر شوہرنے بیوی کو طلاق دی تو عورت کا مہر بیس ہزار اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو عورت کا مہر دس ہزار ہے، تو کیا اس طرح مہر طے کرنا جائز اور معتبر ہو گا اور دونوں شکلوں میں مہر مسٹی لازم ہو گا؟ اس طرح مہر طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر مہر کی خطیر رقم سے بچنے کے لیے ایک مجلس میں تین طلاق دینے کا غیر مشروع اقدام نہ کرے۔ اس سوال کو حل کرنے میں فقہ کے اس مشہور مسئلہ سے مددی جا سکتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس طرح مہر طے ہو کہ شوہر بیوی کو اس کے آبائی وطن سے باہر نہیں لے گیا تو مہر ایک ہزار ہو گا اور اگر بیوی کو اس کے آبائی وطن سے باہر لے گیا تو اس کا مہر دو ہزار ہو گا۔ اس مسئلہ میں صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں درست قرار پاتی ہیں اور ہر دو صورت میں معین کردہ مہر (مہر مسٹی) لازم ہوتا ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس مہر کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کا تسمیہ صحیح قرار پاتا ہے اور پہلی شرط پائی جانے کی صورت میں معین کردہ مہر (مہر مسٹی) لازم ہوتا ہے اور دوسری صورت میں ذکر کردہ مہر کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ دوسری شرط پائی جانے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ مہر مسٹی سے متجاوز نہ ہو۔ تیسین مہر کے اس طرح کے چند دوسرے مسائل بھی فقہ میں پائے جاتے ہیں، ان میں چند کا حوالہ سوانحہ کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ کیا فقہ میں مذکورہ ان مسائل کے پیش نظر تسمیہ مہر کی وہ صورت درست نہیں قرار دی جا سکتی اور کیا طلاق کے واقعات کو روکنے کے لیے اس مسئلہ میں صاحبین کے قول کو فتویٰ کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہے؟

سوال نمبر ۲: اگر نکاح کرتے وقت اس طرح مہر طے کیا جائے کہ اگر شوہرنے اس منکوحہ کے عقد نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا تو اس کا مہر پندرہ ہزار ہو گا ورنہ تیس ہزار۔ تو ایسی صورت میں شریعت کے نزدیک دونوں شرطیں معین اور لازم ا عمل ہوں گی یا نہیں؟

سوال نمبر ۳: آج کل عورتوں میں بھی ہر طرح کی اعلیٰ تعلیم کا رواج ہوتا جا رہا ہے اور تعلیم کے بعد بہت سی عورتیں مختلف ملائمتوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں، یا وابستہ ہونے کی جدوجہد میں لگی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں اگر نکاح کے وقت اپنے ہونے والے شوہر سے یہ شرط لگاتی ہیں کہ شوہر انہیں ملازمت کرنے سے نہیں روکے گا اور

اس شرط کو ہونے والا شوہر عقد نکاح کے وقت قبول کرتا ہے، تو اس شرط کی شرعاً کیا حیثیت ہوگی؟ شوہر کے لیے اس شرط کی پابندی ضروری ہوگی یا نہیں اور اگر شوہر اس شرط کو قبول کرنے کے باوجود عورت کو سلسلہ ملazمت ختم کرنے کا حکم دیتا ہے یا انی ملazمت کرنے سے روکتا ہے، تو عورت کے لیے شوہر کے اس حکم کی تقلیل ضروری ہوگی یا نہیں؟

جواب

یہ مذہبی خوش اعتمادی نہیں بلکہ ایک روشن حقیقت اور زندہ و پاکنده واقعہ ہے کہ اسلام کا قانون ازدواج جس درجہ معتدل، متوازن، فطرتِ انسانی سے ہم آہنگ اور سماجی مصالح کی کسوٹی پر کامل و مکمل ہے، وہ بجائے خود اسلام کا معجزہ اور اس کی حقانیت کی روشن دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا سرچشمہ مخلوق کا ناقص و ہاتھا ملجم نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات اور رب العالمین کا عطا فرمودہ ہے، جو انسانیت کی ضروریات اور مصالح سے خود ان سے زیادہ واقف و آگاہ اور علیم و خبیر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مشرق و مغرب کا نہ کوئی مذہب اور مذہبی گروہ ہے اور نہ انسانوں کا بطور خاص وضع کیا ہوا قانون، جس نے اسلام کے نظامِ معاشرت سے استفادہ نہ کیا ہوا اور اس خرمن کی خوشی چینی سے بے نیاز ہو۔ ایک سماجی ضرورت کے طور پر بہ درجہ مجبوری طلاق کی گنجائش، نظامِ میراث، عورت کے لیے جائزہ میں مالکانہ حقوق کا تصور، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت اور اس طرح کے بہت سے احکام ہیں جن کو آج تمام ہی وضعی قوانین نے تسلیم کیا ہے۔ یہ اسلام ہی کے دیئے ہوئے معاشرتی نظام کی دین ہے۔

مگر افسوس ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں احکامِ شریعت سے ناواقفیت و نا آگہی، دوسری اقوام کی بعض ایسی روایات و رواجات سے تاثر جو سراسر اسلامی تعلیمات اور انصاف کے عمومی تقاضوں کے خلاف ہے اور شریعت کی جانب سے دیئے گئے بعض حقوق کا غلط استعمال اور خدا ناتری کے نتیجہ میں ان لوگوں کو شریعت اسلامی کے خلاف منہ کھولنے کا موقع مل رہا ہے جن کو مسلمانوں کا مذہبی اور تہذیبی شخص کسی طور پر گوارہ نہیں، اور علماء کے لیے بھی یہ بات لمحہ فکر یہ ہو گئی ہے کہ وہ حدودِ شریعت میں رہتے ہوئے ایسی تدبیریں اختیار کریں کہ قانون کے غلط استعمال کا سد باب ہو سکے؛ نکاح کے ساتھ بعض شرطوں کو ہم رشتہ کرنے کے مسئلہ پر بھی اس پس منظر میں غور کرنا چاہیے۔

جواب سوال نمبر (۱) :

نکاح میں لگائی جانے والی شرطیں بنیادی طور پر تین طرح کی ہیں:

پہلی قسم:

ایسی شرطیں جو انہی حقوق و فرائض کو موکد کرتی ہوں جن کو شریعت نے نکاح کی وجہ سے لازمی طور پر واجب قرار دیا ہے۔ جیسے شوہر کا بیوی کو نفقة ادا کرنا، اس کے ساتھ احکام شریعت کے مطابق بھلے طور پر زندگی بسر کرنا، بیوی کا معروف میں شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جانا وغیرہ۔

ایسی شرطیں بالاتفاق معتبر ہیں اور فریقین پر ان کا ایفاء واجب ہے، کیوں کہ یہ بجائے خود نکاح کے مقاصد میں سے ہیں اور شریعت نے ان کو واجب قرار دیا ہے۔ نکاح کے وقت شرط کے طور پر ان کا تذکرہ محض احکام شریعت پر عمل اور اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے عہد کی تجدید و توثیق ہے۔

دوسری قسم:

ایسی شرطیں جو نکاح سے متعلق شریعت کے وجوبی احکام سے متصادم ہوں، حافظ ابن رشد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے کے الفاظ میں جو نکاح صحیح ہونے کی شرطوں میں سے کسی شرط کو ساقط کر دیتی ہوں یا نکاح کے واجب احکام میں سے کسی حکم میں تغیر و تبدیلی کو مستلزم ہوں۔

جیسے یہ شرط کہ بیوی کا مہر نہیں ہو گایا یہ کہ شوہر کے ذمہ اس کا نفقة نہیں ہو گا، یا عورت کی طرف سے شرط کہ شوہر اس سے مقاربت نہ کرے گا یا یہ کہ اس کو سوکن کے حصہ میں سے بھی زائد حصہ دے گا۔ من جملہ انہیں شرائط کے یہ ہے کہ شوہر، عورت اور اس کے اہل خاندان سے کوئی مالی مطالبة کرے۔ ایسی شرطیں بالاتفاق نامعتبر ہیں۔ امام بخاری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے ایسی شرطوں کی ممانعت پر مستقل عنوان قائم فرمایا ہے:

”باب الشروط التي لا تحل في النكاح“

تَرْجِمَةً: ”ان شرطوں کا بیان جو نکاح میں حلال نہیں ہیں۔“

پھر اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول پیش کیا ہے کہ: ”کوئی خاتون اپنی دینی بہن یعنی سوکن کو طلاق دینے کی شرط نہ لگائے۔“ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی روایت ذکر کی ہے کہ آپ صَلَوةُ عَلَيْهِمَا نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبه کرے، تاکہ اس کے حصہ کی بھی حقدار ہو جائے، کیوں کہ جو اور جتنا اس کے لیے مقدر ہے وہ تو اسے مل کر ہی رہے گا۔

اگر اس طرح کی شرطیں لگاہی دی جائیں تو نکاح پر بالاتفاق ان کا کوئی اثر نہیں ہو گا، نکاح منعقد ہو جائے گا

اور شرطیں لفڑے بے اثر ہوں گی۔^۱

تیسرا قسم:

ایسی شرطیں ہیں جن سے عورت کو نفع پہنچتا ہو اور شریعت نے ان کو واجب قرار دیا ہوا اور نہ ان سے منع کیا ہو، گویا ان شرطوں کو مان کر مرد اپنے بعض ایسے حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے جن سے دستبردار ہونے کا اس کو اختیار ہے۔

مثلاً: عورت کا یہ شرط لگانا کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرے گا، یا یہ کہ اس کے میکہ میں رکھے گا، یا یہ کہ اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا وغیرہ۔

ایسی شرطوں کے ساتھ نکاح کیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اس پر اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ شرطیں معتبر ہوں گی اور ان کی تکمیل واجب ہو گی یا نہیں؟ اور سلف صالحین اور ائمہ مجتهدین میں مثبتین اور منکرین کی قابل لحاظ تعداد ہے۔

منکرین اور ان کے دلائل

جو لوگ ایسی شرطوں کو بھی نامعتبر خیال کرتے ہیں، ان میں صحابہ میں حضرت علی رضوانہ اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے۔ نیز یہی رائے سعید بن المسیب، حسن بصری، طاؤس ابراہیم خنفی، ابن شہاب زہری، عطا، ایاس بن معاویہ اور ہشام بن ہمیرہ ابن سیرین اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ائمہ اربعہ میں امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، فقهاء مالکیہ ایسی شرطوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ان کا ایفاء کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے ان حضرات کے دلائل حسب ذیل ہیں:

① آپ ﷺ نے فرمایا:

”کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.“

ترجمہ: ”جو شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔“^۲

اور ظاہر ہے کہ نکاح کے ساتھ اس قسم کی شرطیں کتاب اللہ میں مذکور نہیں ہیں۔

۱۔ لفڑا لا تفسد النكاح بالاتفاق. بدایۃ المجتهد: ۵۹/۲، فتح الباری: ۸۱۲/۹۔ ۲۔ المعنی: ۷۱/۷

۳۔ ان سکھوں سے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ: ۴/۲۰۰۔

۴۔ مصنف: ۲۰۰/۴ من قال ليس لها شرط الخ ۵۔ مصنف عبدالرزاق: ۲۲۰/۲

۶۔ شرح السنۃ للبغوی: ۵۵/۹ ۷۔ بدایۃ المجتهد: ۵۹/۲ ۸۔ شرح مہذب: ۲۰۰/۱۶

۹۔ حاشیۃ الصاوی علی الشرح الصغیر: ۲۸۵/۲ ۱۰۔ بخاری: ۱/۲۷۷ کتاب الشروط

۱ ارشادِ نبوی ہے:

”الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمُ الْأَشْرَطًا أَحْلٌ حِرَامًا وَحِرَمٌ حَلَالًا“

ترجمہ: ”یعنی مسلمانوں کے حقوق و واجبات طے شدہ شرطوں کے مطابق ہوں گے۔ سوائے اسی شرط کے جو کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرتی ہو۔“

شوہر کے لیے جب شریعت نے دوسرے نکاح کی اور جہاں رہے وہاں بیوی کو رکھنے کی اجازت دی ہے تو اب کسی شرط کے ذریعہ مرد کا اس حق سے محروم ہو جانا حلال کو حرام کر لینے کے متراوف ہے۔

۲ اسی شرطیں تقاضاء عقد کے خلاف ہیں۔

۳ ایک خاتون جن سے شوہر نے مکان دینے کا وعدہ کیا تھا، جب ان کی بابت حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: اللہ کی شرط بیوی کی شرط سے مقدم ہے۔ ”شرط اللہ قبل شرطہا۔“

مشتبئین اور ان کے دلائل

جن حضرات کے نزدیک اسی شرطیں معتبر ہیں اور شوہر پر ان کو پورا کرنا واجب ہے، ان کی فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ صحابہ میں حضرت عمر^{رض} اور عمرو بن العاص^{رض} رضوی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ نقطہ نظر تھا، بعد کے اہل علم میں قاضی شریح، ابو الشعرا^{رض} حضرت عمر بن عبدالعزیز^{رض} اسحاق^{رض} اوزاعی، ابن شیرمه^{رض} رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے۔ علامہ بغوي رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے۔ اکثر محدثین کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ”ترجمۃ الباب“ میں حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا ایک نکڑ انقل کیا ہے جو اس قسم کی شرطوں کے معترض ہونے کی بابت ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اسی گروہ کے ساتھ ہیں۔ یہی حال امام ابو داؤد رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ائمہ مجتهدین میں یہی رائے امام احمد بن حنبل کی ہے۔

ان حضرات کے دلائل اس طرح ہیں:

۱۔ شرح مهدب: ۲۵/۱۶ فقه السنۃ: ۵۲/۲ المسید سابق ۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۴/۲۰۰

۳۔ مصنف عبدالرزاق: ۶/۲۲۷ ۴۔ مصنف عبدالرزاق: ۶/۲۲۸

۵۔ مصنف عبدالرزاق: ۶/۲۲۴ اور اس کے بعد باب الشروط فی النکاح

۶۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۴/۲۰۰ ۷۔ ترمذی: ۱/۱۴ باب الشروط عند النکاح ۸۔ بدایۃ المجتهد: ۲/۵۹

۹۔ شرح السنۃ: ۹/۵۴ بخاری باب الشروط فی النکاح

۱۰۔ ابو داؤد مع عون المعبود باب فی الرجل بشرط لها دارا: ۶/۱۷۶ ۱۱۔ المغنى: ۷/۷

① اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ فُوَابُ الْعُقُودِ﴾

تَرْجِمَة: "اے ایمان والو! وعدوں کو پورا کرو۔"

ابو بکر جاص رازی رَحْمَةُ اللَّهِ لِعَالَمِنَ الْمُجَاهِدِینَ نے اس آیت کے ذیل میں حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، مجاهد، ابن جریج، ابو عبیدہ رَحْمَةُ اللَّهِ لِعَالَمِنَ الْمُجَاهِدِینَ اور متعدد لوگوں سے نقل کیا ہے کہ "عُقُود" سے مراد "عہدوں" یعنی معاهدات اور وعدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نکاح کے وقت طے پانے والی جائز شرطیں بھی "عہد" کے قبیل سے ہیں۔ خود جاص رَحْمَةُ اللَّهِ لِعَالَمِنَ الْمُجَاهِدِینَ نے آگے چل کر لکھا ہے:

"وَكَذَلِكَ كُلُّ شَرْطٍ شَرْطٌ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يَعْمَلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ عَدْدٌ" ۷

تَرْجِمَة: "مستقبل میں کیے جانے والے افعال کی بابت اپنے آپ پر انسان جو بھی شرط عائد کر لے وہ "عقد" ہے۔"

پھر آگے اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ اس آیت کا تقاضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں:

"وَهُوَ عُوْمَدٌ فِي إِيْجَابِ الْوَفَاءِ بِجَمِيعِ مَا يَشْرُطُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ تَقْرِئْ دَلَالَةً تَخْصِصَهُ" ۷

تَرْجِمَة: انسان اپنے آپ پر جو شرطیں منظور کر لے، یہ آیت ان تمام کی بابت ایقاہ اور تکمیل کو واجب قرار دیتی ہے، سو ائے اس کے کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو اس میں تخصیص کا تقاضا کرتی ہو۔"

اسی طرح کامضیون فرآن مجید نے دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ ۷

تَرْجِمَة: "اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔"

مفسر قرطبی رَحْمَةُ اللَّهِ لِعَالَمِنَ الْمُجَاهِدِینَ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"لَفْظٌ عَامٌ لِجَمِيعِ مَا يَعْقُدُ بِاللِّسَانِ وَيَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ صَلَةً أَوْ مُواثِقَةً فِي أَمْرٍ مُوْافِقٍ لِلْدِيَانَةِ" ۷

تَرْجِمَة: "عقد ان تمام باتوں کو عام ہے جو زبان سے طے کی جائے اور جسے انسان اپنے اوپر لازم

۷ لِهِ احْكَامُ الْقُرْآنِ: ۲۸۴/۲، ۲۸۳، ۲۸۵/۳ لِهِ احْكَامُ الْقُرْآنِ: ۲۸۶/۳

۷ لِهِ النَّحْلُ: ۹۱ لِلْجَامِعِ لَا حَكَامُ الْقُرْآنِ: ۱۶۹/۱۰

کر لے، خرید و فروخت ہو یا صلح رجی یا کسی بھی ایسے معاملہ میں معاہدہ جو دین پکے موافق ہو۔“

❷ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفِّوْهُ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفَرُوجَ“

ترجمہ: ”سب سے زیادہ قابل ایفاء شرطیں وہ ہیں جن کے ذریعہ تم عصمتوں کو علاں کرتے ہوئے۔“

عام طور پر محدثین نے اس سے اسی قسم کی شرطیں سمجھی ہیں۔ بخاری و ابو داؤد کا نقطہ نظر گزر چکا ہے۔ ابن الی شیبہ نے پہلے وہ روایات و آثار نقل کئے ہیں جن سے شرطوں کا معتبر ہونا معلوم ہوتا ہے اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ذکر کیا ہے، پھر ان کا ذکر کیا ہے جو ایسی شرطوں کو نامعتبر تصور کرتے ہیں اور ابتداء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کی ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو پہلے گروہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

❸ عبدالرحمٰن بن عثٰمٰن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، جس میں شوہر یوں کے درمیان یہ شرط طے شدہ تھی کہ شوہر اس کو اس کے میکے ہی میں رکھے گا (أَنْ لَا يَخْرُجَهَا مِنْ دَارِهَا) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شرط پوری کی جائے۔ اس کے شوہرنے کہا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو تو عورت جب بھی شوہر سے علیحدہ ہونا چاہیے گی علیحدہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِهِمْ حَدُودُهُمْ“^۱

ابن الی شیبہ نے اس کو مختصرًا بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے۔

❹ یہی رائے متعدد صحابہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سعد بن الی و قاص، معاویہ اور عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس وقت ہوا ہے جب صحابہ کی بڑی تعداد مدینہ میں فروکش تھی اور کسی کا اس فیصلہ میں اختلاف کرنا منقول نہیں ہے۔

❺ یہ ایسی شرطیں ہیں جو مقاصد نکاح میں تو مانع نہیں ہیں اور اس سے ایک جائز مقصد و منفعت متعلق ہے۔ جیسے مهر کی زیادتی یا اپنے ملک کے بجائے کسی اور ملک میں مهر کی تعیین، تو انہیں امور کی طرح ان شرطوں کو بھی لازم ہونا چاہیے۔

سلہ بخاری مع الفتح: ۴۵۵/۹، مسلم: ۱/۴۵۵، ابو داؤد: ۱/۴۹۱، نسانی: ۲/۷۸، ابن ماجہ: ۱/۴۰، الفاظ بخاری کے ہیں۔

۱۔ مصنف: ۲۲۷، ۱۹۹/۴ ۲۔ مصنف عبد الرزاق: ۲۲۷/۲ ۳۔ مصنف: ۴/۲۰۰ ۴۔ بخاری مع الفتح: ۹/۲۱۷

۵۔ المغنى: ۷/۷ ۶۔ المغنى: ۷/۷

فریقین کے دلائل پر ایک نظر

ہر چند کہ فریقین نے اپنے موقف پر ان مختلف دلائل سے استدلال کیا ہے، لیکن اصل استدلال دونوں ہی فریقوں کا حدیث نبوی ﷺ ہے۔ ائمہ مذاش نے اس حدیث کے عموم کو ملحوظ رکھا ہے کہ:

”کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مانه شرط۔“

تَرْجِيمَهُ: ”جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، گو وہ سو شرطیں ہوں۔“ ۶

اور حنابلہ نے نکاح سے متعلق اس خصوصی ارشاد کو پیش نظر رکھا ہے کہ:

”احق الشروط أن يوفى به ما استحللت به الفروج“ ۷

تَرْجِيمَهُ: ”سب سے بڑھ کر وہ شرط قابل ایفاء ہے جس کے ذریعہ تم عصمت حلال کرتے ہو۔“

حافظ ابن رشد رحمہمہ اللہ تعالیٰ بلند پایہ مالکی فقہاء میں ہیں اور منصف مزاج بھی ہیں، مگر ان کا رجحان

حنابلہ کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں:

”والحدیثان صحیحان أخرجهما البخاری ومسلم الا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في “العتبیة“ وان كان المشهور خلاف ذلك.“ ۸

تَرْجِيمَهُ: ”دونوں حدیثیں صحیح ہیں، جن کی بخاری و مسلم نے تخریج کی ہے، لیکن علماء اصول کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ خاص کے ذریعہ عام کی تخصیص کی جائے گی اور زیر بحث مسئلہ میں خصوص یہی ہے کہ شرط کی تکمیل لازمی ہو۔“ عجیبیہ ”(فقہ مالکی کی ایک اہم کتاب) میں جو کہا گیا ہے، اس سے بھی یہی ظاہر ہے، گو قول مشہور اس کے خلاف ہے۔“

موجودہ دور کے اہل تحقیق علماء میں متعدد لوگ ہیں جو اس مسئلہ میں حنابلہ کے نقطہ نظر کے موئید ہیں۔ ان میں شیخ مصطفیٰ احمد الزرقانؒ شیخ سید سابقؒ اور ڈاکٹر وہبہ زہلیؒ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ شام کے موجودہ عالمی قوانین میں بھی اسی پر عمل ہے اور یاد آتا ہے کہ ۱۹۷۵ء میں مصر کی پارلیمنٹ نے بھی علماء ازہر کی تائید سے اس قسم کا قانون بنایا تھا، جو اس وقت ہندوستان میں موضوع بحث بن گیا تھا۔

واقع ہے کہ شرائط و معاملات کے معاملہ میں اسلام کے عمومی مزاج و مذاق، خصوصیت سے نکاح کے بارے میں طے شدہ شرائط کی ایفاء و پابندی کی ہدایت پھر حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت خلیفہ فیصلہ اور بظاہر اس پر

سلہ بخاری: ۱/۴ باب التقادی والملازمة في المسجد ۷ بخاری: ۱/۳۷۶ وغیرہ ۸ بدایۃ المجتهد: ۶۹/۲

۹ المدخل الفقهي العام: ۱/۴۸۲ ۱۰ فقه السنة ۱۱ الفقه الاسلامی وادلنہ: ۶۰/۷

صحابہ کا سکوت نیز اسی قسم کا قاضی شریع کا فیصلہ اور متعدد صحابہ کا اس رائے سے اتفاق وہ امور ہیں جن سے حنابلہ کا مسلک نسبتہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں نکاح کے وقت متعینہ شرطوں کو وفا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، جمہور کا خیال ہے کہ اس سے کوئی اضافی شرط مراد نہیں ہے، بلکہ نکاح کی بناء پر عائد ہونے والے فرائض واجبات کی تاکید مقصود ہے؛ لیکن حدیث کے الفاظ میں بظاہر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کتب حدیث میں اس کا کوئی ایسا پس منظر ہی منقول ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ مراد متعین کی جاسکے؛ چنانچہ ائمہ ثلاشہ کے مقلدین میں سے بھی جن لوگوں نے معروضی انداز پر اس حدیث میں غور کیا ہے، انہوں نے حنابلہ کے نقطہ نظر کو حدیث سے زیادہ قریب محسوس کیا ہے۔ ابن رشد رَحْمَةُ اللَّهِ مَا تَعْلَمَ کی صراحت اور پذور ہو چکی ہے۔ شافعی میں ابن دقيق العید رَحْمَةُ اللَّهِ مَا تَعْلَمَ کا جو پایہ علمی ہے، اس سے حدیث وفقہ کے کوچہ کا کون رہ گزنا واقف ہو گا؟ انہوں نے جمہور کی طرف سے حدیث کی اس تشریح پر بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رَحْمَةُ اللَّهِ مَا تَعْلَمَ کہتے ہیں:

”قد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في ايجابها فلا تشتد الحاجة الى تعليق الحكم باشتراطها وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك لأن لفظ ”أحق الشروط“ يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها.“^۱

ترجمہ: ”جو شرطیں خود ہی مقتضیات عقد میں سے ہیں، انہیں کو اس حدیث کا مصدقہ قرار دینے پر ابن دقيق العید کو اشکال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان امور کے واجب قرار دیئے جانے میں ان شرطوں کو لگانا موثر نہیں ہے تو پھر ان شرطوں کے لگانے پر حکم کو متعلق کرنے کی کوئی حاجت نہیں، حدیث کا سیاق بھی اس سے مختلف بات کا متقاضی ہے، کیوں کہ ”أحق الشروط“ کی تعبیر ظاہر کرتی ہے کہ بعض شرطیں قابل ایفاء ہیں اور بعض زیادہ قابل ایفاء ہیں اور جو شرطیں واجبات عقد میں سے ہیں وہ لازم الایفاء ہونے میں برابر ہیں۔“

”کل شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل“ (کتاب اللہ میں جو شرط نہ ہو وہ باطل ہے) سے کس قسم کی شرطیں مراد ہیں؟ ان کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے، جس کے پس منظر میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بریرہ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نَعَمَ ایک باندی حضرت عائشہ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا کی

خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے مالک نے ان کو مکاتب بنادیا تھا۔ (مکاتب سے مراد ایسا غلام یا باندی ہے جس سے مالک نے کہہ دیا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ آزاد شدہ غلام اور باندی پر آزاد کرنے والوں کو حق ولاء حاصل ہوتا ہے)۔ انہوں نے ام المؤمنین سے درخواست کی کہ بدلتابت کی اوایگی میں ان کی مدد کی جائے۔ ام المؤمنین رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بجائے میں چاہوں گی کہ تم کو تمہارے مالکان سے خرید لوں اور خود آزاد کرلوں، اس طرح تمہارا ولاء مجھے حاصل ہو۔ مالکان نے کہا کہ ہم فروخت تو کر دیں اور ام المؤمنین آزاد کر لیں، مگر حق ولاء ہمارے لیے محفوظ رہے گا۔ ظاہر ہے ان کی یہ بات شریعت کی روح کے خلاف تھی۔ شریعت میں ”زب“ کی طرح ”ولاء“ کو بھی ایک فطری علاقہ اور ناقابل تبدیل حق قرار دیا گیا ہے۔ جیسے زید کا بیٹا معاهدہ کے ذریعہ سے عمر کا بیٹا نہیں بن سکتا، اسی طرح جس کو زید نے آزاد کیا وہ کسی معاهدہ اور شرط کی بناء پر عمر کا منوی نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس نامعقول مطالبا اور شرط پر آپ ﷺ نے برہمی ظاہر فرمائی اور ارشاد ہوا:

”ما بآل أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فلي sis له وان اشترط مأة مرة.“^۱

ترجمہ: ”کچھ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ جو شخص ایسی شرط لگاتے کہ وہ کتاب اللہ میں موجود نہ ہو اس کا اعتبار نہیں، گو ایک سو شرطیں لگادے۔“

اس واقعی پس منظر سے صاف ظاہر ہے ”ليس في كتاب الله“ سے ایسی شرط مراد ہے جو شرعاً اس معاملہ کی روح و مقصد اور بنیادی مزاج ہی کے مغائر ہو۔ جیسے نکاح میں زن و شوہی سے کسی ایک سے جنسی تعلقات میں تعاون سے انکار کی شرط، شوہر کی جانب سے نفقة نہ دینے کی شرط، مہر کے انکار کی شرط، کہ یہ سب نکاح کے اساسی واجبات میں سے ہیں، ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح یا عورت کی جائے سکونت کا مسئلہ نکاح کے لوازم میں سے نہیں ہے۔

اس قسم کی شرطوں کو ”تحريم حلال“ سے بھی تعبیر کرنا دشوار ہے۔ حلال سے بھی ایسے مبالغات مراد ہیں جو عقد کے لوازم میں ہوں۔ جیسے: وطنی کا حق شوہر یا بیوی کو مباح ہی ہے، فریق دوم کے مطالبا کے بغیر واجب نہیں۔ یہی حال عورت کے حق نفقة کا ہے۔ رہ گئے وہ حقوق جو معاملہ کے لوازم میں نہ ہوں اور مبالغات کے قبیل سے ہوں، ان میں کسی فریق کا بذریعہ معاهدہ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا تحريم حلال نہیں۔ غور کیجئے کہ طلاق اصولی طور پر مرد کا حق ہے اور وہ تنہ اس کے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، بیوی اپنے طور پر علاحدگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی؛ لیکن

سلہ بخاری: ۶۵/۱ باب ذاکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد.

فقہاء نے "تفویض طلاق" کی صورت میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے اختیار میں بیوی کو بھی شریک کر لے۔

"تحريم حلال" کے اس مفہوم کو اس پس منظر میں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ نے نکاح میں اس طرح کی شرطوں کو معتبر اور واجب الایفاء قرار دیا ہے اور یہی حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ ہیں جنہوں نے اسلام کے قانونی عدل کی بابت حضرت ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے:

"الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أهل حراماً أو حرم حلالاً۔"

تَرْجِيمَهُ: "مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، سوائے ایسی صلح کے جو کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کا باعث بنے۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ اس بات سے بے خبر تھے اور نہ غافل، کہ تحلیل حرام اور تحريم حلال پر مبنی صلح و معاهدہ جائز نہیں، لیکن وہ اس طرح کی شرائط کو تحريم حلال کا مصدقہ ہی نہ جانتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی شرطوں کا مقصد معاملہ کے کمزور فریاق کا اپنے لیے تحفظ حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملہ میں رہن اور کفالت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ بقول ابن قدامہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَيْفَ يَرَى اسی قسم کی شرطوں میں ہے۔ معاملات دراصل معاهدات پر مبنی ہیں اور جو معاهدہ ہواں پر فریقین کا عمل کرنا واجب ہے؛ سوائے اس کے کہ اس سے شریعت کے کسی صریح حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ شریعت کے مزاج و مذاق کے رمزشناس خاص شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں:

"الأصل في العقود رضى المتعاقدين و نتيجتها هو ما أوجبهما على أنفسهما بالتعاقد۔"

تَرْجِيمَهُ: "معاملات میں اصل فریقین کی رضامندی ہے اور اس کا ثمرہ و نتیجہ اس چیز کا واجب ہونا ہے جو معاملہ کے ذریعہ دونوں نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔"

یہ تو اس مسئلہ سے متعلق ایک فقہی اور استدلائی بحث تھی اور اس پر بہت بحث و نظر کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اصل قابل فکر بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جہالت و ناخواندگی، احکام شریعت سے نا آگہی، ہمارے سماج کی اسلامی مزاج و مذاق سے محرومی اور دوسرا ہم وطن اقوام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی بعض اقدار سے تاثر ایسی حقیقتیں ہیں، جن کا اعتماد اف نہ کرناریت میں منہ چھپانے کے متراود ہوگا؛ حالانکہ مسلمانوں میں تعداد ز

سلہ ابو داؤد عن أبي هريرة ؓ والترمذی وابن ماجة عن عمرو بن عوف. نصب الراية: ۱۱۲/۴ کتاب الصلح

تَرْجِيمَهُ: ۷۱/۷ فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۳۹/۳

دواج کا رواج ہندوستان میں خود ہندوؤں سے بھی کم ہے، اسی طرح طلاق کا استعمال بھی باوجود بہت سے سماجی مفاسد کے غالباً اب بھی مسلم سماج میں بہت نہیں، لیکن اس طرح کے جتنے واقعات سامنے آتے ہیں، اگر ان کا سروے کیا جائے، تو شاید اس کا نتیجہ یہی نکلے کہ ۸۰ فیصد طلاق کے واقعات بے جا ہوتے ہیں اور اسی تابع سے دوسرا نکاح کسی سنجیدہ و متین فیصلہ کے تحت نہیں، بلکہ وقتی عمل کے تحت کیا جاتا ہے اور دوسرے نکاح کے لیے سہارا تو شریعت کا لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اسلام کے اصول عدل کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس سے ہمارے سماجی ڈھانچے کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ تو اپنی جگہ، دوسری اقوام کے درمیان جو جگہ ہنسائی ہوتی ہے اور شریعت مطہرہ پر جو چوٹیں کسی جاتی ہیں ان کا باعث بھی بالواسطہ ہم بنتے ہیں۔

ان اوقات میں دل چاہتا ہے کہ ایسے خدا نا ترسوں اور عاقبت نا اندیشوں کے لیے ہم دزد فاروقی کا لفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ممکن حد تک کوئی ایسی قید و بند شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے لگائیں کہ اس قسم کی مظلوم عورتوں کے لیے کوئی راونجات نکل آئے اور ایک حد تک ہم اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كے نقطہ نظر سے فائدہ اٹھا کر اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ فقہ حنبی میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر عورت نکاح کے وقت یہ شرط لگادے کہ مرد اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرے گا، پھر بھی دوسرا عقد کر لے تو وہ اپنا نکاح فتح کر سکتی ہے۔ از راہ احتیاط اس میں شرط کو مزید مقید کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جب تک دارالقضاء طبی اور معاشی اعتبار سے اس شخص کو دوسرے نکاح کے حقوق ادا کرنے کے لائق اور دوسرے نکاح کا واقعی ضرورت مند تصور نہ کرے، اس وقت تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکے وغیرہ؛ حالانکہ رقم المحرف کا خیال ہے کہ تقلید ایک ضرورت ہے اور فی زمانہ ہوں اور نفیات کو لگام دینے کے لیے تقلید شخصی "سفینۃ النجات" کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ایسے حساس مسائل میں فقہ کی مکتبی پابندیوں سے کسی قدر پرے اٹھ کر احکام شریعت کے وسیع تر تناظر میں غور و فکر کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس ملک میں قانون شریعت کا تحفظ کر سکیں۔

"هذا ماعندي وما أريد الا الا صلاح. والله من وراء القصد"

تفویض طلاق کا مسئلہ

جواب سوال نمبر (۲)

عورت کو حق طلاق پر درکرنا فقہ کی اصطلاح میں "تفویض طلاق" کہلاتا ہے۔ شرعاً اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ شوہر کسی اور شخص سے کہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دیدے؛ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی صورت "تملیک

طلاق" کی ہے اور دوسری صورت "توکیل طلاق" کی، پہلی صورت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا اور دوسری صورت میں رجوع کر سکتا ہے۔ شوہر دیا ہوا حق واپس نہیں لے سکتا، اس بارے میں علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

"إِنَّهُ لَازِمٌ مِّنْ جَانِبِ الْزَّوْجِ حَتَّى لا يَمْلِكَ الرَّجُوعَ عَنْهُ وَلَا نَهْيُ النِّسَاءَ عَمَّا جَعَلَ لِيَهَا وَلَا فَسْخٌ ذَلِكَ لَا نَهْيَ مَلْكَهَا الطَّلاقُ وَمَنْ مَلْكٌ غَيْرُهُ شَيْنَا زَالَتْ وَلَا يَنْتَهِ مِنَ الْمَلْكِ وَلَا يَمْلِكُ أَبْطَالَهُ بِالرَّجُوعِ وَالنَّهْيِ وَالْفَسْخِ." ۱

دوسری صورت

دوسری صورت کہ ایجاد و قبول ہی میں تفویض طلاق کر دیا جائے درست ہے، البتہ ضروری ہے کہ ایجاد عورت کی طرف تفویض طلاق سے مشروط ہو اور مرد اس کو قبول کر لے۔ اگر مرد کی طرف سے ایجاد ہو اور وہ ایجاد کے ساتھ تفویض طلاق کرے اور عورت قبول کرے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ خلاصہ الفتاویٰ میں ہے:

"وَعَلَى هَذَا الْوَتْزُوْجِ امْرَأَةٌ عَلَى أَنْهَا طَالِقٌ أَوْ عَلَى أَنْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَا تَطْلُقُ نَفْسُهَا كَلِمًا تَرِيدُ لَا يَقُعُ الطَّلاقُ وَلَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ بَدَأَتِ النِّسَاءُ فَقَالَتْ زَوْجُهُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَنِّي طَالِقٌ أَوْ عَلَى أَنْ أَمْرِي بِيَدِي أَطْلَقَ نَفْسِي كَلِمًا أَرِيدُ فَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَتِي، وَقَعَ الطَّلاقُ وَصَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا." ۲

ترجمہ: "ای پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ اس پر طلاق واقع ہو جائے یا اس شرط پر کہ اسے طلاق کا اختیار حاصل ہو جب بھی چاہے اپنے اور پر طلاق واقع کر لے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اختیار عورت کو حاصل نہ ہوگا؛ ہاں اگر ابتداء عورت کی طرف سے ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس شرط پر نکاح کیا کہ مجھ پر طلاق واقع ہو جائے یا یہ کہ مجھے اختیار حاصل ہوگا کہ جب چاہوں اپنے آپ پر طلاق واقع کرلوں اور شوہرنے کہا میں نے قبول کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اختیار بیوی کو حاصل ہو جائے گا۔"

خلاصہ ہی کے حوالہ سے اس کو ابن نجیم رحمہما اللہ تعالیٰ نے ۳ اور ابن نجیم کے حوالہ سے علامہ شامی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نقل کیا ہے ۴ فتاویٰ برازیلیہ میں بھی تفویض طلاق کی اس صورت کو کسی قدر قیود و حدود کی پابندی کے ساتھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے:

"إِذَا خَافَتِ النِّسَاءُ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَا يَجْعَلُ الْأَمْرَ بِيَدِهَا بَعْدَ النِّزَوْجِ تَقُولُ زَوْجُتْ

نفسی منک بکذا علی أن أمری بیدی، اطلق نفسی منک باんな متی شنت کلمہ ضربتني بغیر جنایہ او تزوجت علی أخرى او اشتريت او غبت عنی سنة۔”^۷

تَرْجِمَة: ”عورت کو اندیشہ ہو کہ نکاح کے بعد شوہر اس کو طلاق نہیں سونپے گا تو اسے یوں کہنا چاہیے: میں نے تم سے اتنے مہر کے عوض اس شرط پر نکاح کیا کہ اختیار طلاق مجھے حاصل ہوگا، جب بھی تم مجھ کو بے قصور مار دیا میری موجودگی میں دوسرا نکاح کر لو یا پاندی لادیا مجھ سے ایک سال تک غائب رہو، ایسی صورت میں جب چاہوں گی اپنے اوپر طلاقی بائیں واقع کروں گی۔“

یہ شوہر کی جانب سے لازم ہے، چنانچہ وہ اس سے رجوع کرنے اور عورت کو دینے کے حق سے باز رکھنے یا اس کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، کیوں کہ اس نے عورت کو طلاق کا مالک بنادیا ہے اور جو کسی چیز کا دوسرے کو مالک بنادے اب اس مملوک کشی سے اس کا حق تصرف ختم ہو چکا ہے، لہذا وہ رجوع کر کے منع کر کے اور فتح کر کے اس کے اس حق کو باطل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

بیوی کو تفویض طلاق

تفویض طلاق کی پہلی صورت کہ نکاح سے پہلے ہی تفویض پر معاہدہ طے ہو جائے اور کافی نامہ پر فریقین کے دشخط ہو جائیں، بھی درست ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ تفویض میں نکاح کرنے کی شرط ذکر کر دی جائے؛ مثلاً یوں کہے ”اگر میں نے تم سے نکاح کیا اور فلاں فلاں بات میری طرف سے پائی گئی تو تم کو اپنے آپ پر طلاق بائیں واقع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔“ چنانچہ ہدایہ میں ہے:

”طلاق کی نسبت عورت کی طرف درست نہیں، سوائے اس کے کہ مشروط طلاق دینے والا اس پر ملکیت نکاح رکھتا ہو یا ملکیت نکاح ہی کی طرف نسبت کرے، اس لیے کہ جزا کا ظاہر ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ چیزیں عورت کے لیے باعث خوف ہو سکیں اور میں کامنی متحقق ہو سکے جو قوت و ظہور ہے اور یہ انہیں دو میں سے ایک طریقہ سے ہو سکتا ہے، کیوں کہ سبب ملکیت کی طرف نسبت پائے جانے کے وقت خود اس کا پایا جانا ظاہر ہے۔“

پس جیسے مشروط طلاق کے لیے نکاح کی طرف نسبت ضروری ہے، ورنہ کلام غیر مؤثر ہوگا، اسی طرح تفویض طلاق کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ مشروط ہو۔ قبل نکاح، نکاح پر مشروط تفویض طلاق کا بعد از نکاح مؤثر ہونا علامہ عبدالرشید طاہر بخاری کی اس عبارت سے بھی اخذ کیا جاسکتا ہے:

”ولو قال الزوج تزوجتك على أنك طالق بعد التزوج أو على أن أمرك بيدك

بعد التزوج فقبلت المرأة صار الأ مربيدها۔^{۲۷}

ترجمہ: ”اگر شوہرنے کہا: میں نے تجھ سے اس شرط پر نکاح کیا کہ شادی کے بعد تم پر طلاق واقع ہو جائے یا یہ کہ نکاح کے بعد اختیار تمہارے ہاتھ میں ہو گا اور عورت قبول کر لے، تو عورت کو اختیار حاصل ہو جائے گا۔“

تیسرا صورت

تیسرا صورت کہ نکاح کے بعد طرفین تفویض طلاق کے معابدہ نامہ پر دستخط کردیں جائز ہے، چاہے اس معابدہ میں شوہر کی طرف سے پہل ہو یا بیوی کی طرف سے؛ دونوں ہی صورتیں درست ہیں۔ یوں تو نکاح کے وقت ہی تفویض طلاق کے موضوع پر گفتگو سماج کے موجودہ مزاج کے تحت گراں محسوس ہو گی، لیکن اگر اس طرح نکاح نامے طبع کرالیے جائیں اور مطبوعہ فارم پر کر کے ہی عقد کاررواج ہو جائے، جیسا کہ دکن کے علاقہ میں موجود ہے اور اس فارم میں پہلے سے اس طرح تحریر موجود ہو تو لوگ بتدرنج اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس طرح نکاح کا ریکارڈ بھی محفوظ رہے گا، جس کی وجہ سے ثبوت نکاح، ثبوت نسب اور مقدار مہر وغیرہ کی بابت کم سے کم نزاع پیدا ہو گا۔

تفویض طلاق کی ان دونوں صورتوں میں شرائط نامہ کی تحریر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہو گا جو تفویض میں عموم کو بتاتا ہو۔ مثلاً یہ کہ ”میں اپنی زوجہ فلاں بنت فلاں کو اختیار دیتا ہوں کہ متذکرہ بالاشرائط میں سے کسی کی عدم تکمیل جب بھی دارالقضاۃ میں ثابت ہو جائے تو وہ اپنے آپ پر طلاق بائن واقع کر لے۔“ یہ ”جب بھی“ کا لفظ عربی زبان کے ”متى“ کا ہم معنی ہے اور ایسے الفاظ شرط کے ساتھ تفویض طلاق میں عورت میں نکاح اپنے حق کو استعمال کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ کاسانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے الفاظ میں:

”إِن أَطْلَقَ الْوَقْتَ بَأْنَ قَالَ أَمْرُكَ يَدِكَ إِذَا شَنَتْ أَوْ مَتَى شَنَتْ أَوْ حَيْثُ شَنَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِ الْمَجْلِسِ وَلَا يَنْقِيدُ بِالْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْرَدَ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ رَدًا۔“^{۲۸}

ترجمہ: ”اگر وقت کو مطلق رکھا اور یوں کہا: تم جب چاہو یا جہاں چاہو تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہو گا، تو اس مجلس میں بھی اختیار حاصل رہے گا اور اس کے بعد بھی، مجلس کے ساتھ اس کا اختیار مقید نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ خود اختیار کو رد بھی کر دے تو رد نہیں ہو گا۔“

تفویض طلاق میں طلاق بائن کی صراحت بھی ضروری ہے، تین طلاق کا ذکر ہرگز مناسب نہیں، کہ خلاف سنت اور مغضوبت ہے، مطلق طلاق کافی نہیں کہ اس سے طلاقی رجیع واقع ہوگی اور مرد کو یک طرفہ رجوع کا حق باقی رہے گا، تو یہ ایک ہاتھ سے عورت کو پروانہ خلاصی دینے اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے لینے کے متراوف ہوگا۔

چون کہ طلاق ایک نازک مسئلہ ہے اور عورتوں کے لیے اس کا بے قید اختیار دے دینا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا، مردوں ہی کی طرف سے طلاق کے بے جا استعمال نے جب یہ کچھ تم ڈھایا ہوا ہے، تو عورتوں کو اس کی بے قید اجازت کیا کچھ مفاسد پیدا نہیں کرے گی؟ اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ تفویض طلاق مرد کی طرف سے ظلم و زیادتی اور دارالقضاء یا کچھ صالحین کی طرف سے حق مفوضہ کے استعمال کی اجازت سے مشروط کر دیا جائے۔

اگر متعدد اشخاص کی اجازت اور رضامندی سے طلاق کو مشروط کر دیا جائے، تو ان کی رضامندی اور عورت کے پیش کئے ہوئے عذر کی معقولیت سے اتفاق کر لینے کے بعد ہی وہ اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے۔ چنانچہ فتاویٰ واضعی غائب میں ہے:

”رجل جعل أمر امرأته بيد رجالين لا ينفرد أحدهما بالطلاق“^۱
 ترجمہ: ”کوئی شخص اپنی بیوی کے معاملہ کو دو اشخاص کے اختیار میں کر دے تو دونوں میں سے ایک کو تہا طلاق واقع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔“

دارالقضاء کو تفویض

خیال ہوتا ہے کہ تفویض طلاق کی ابی صورت اختیار کرنی بہتر ہے جس میں حق طلاق دارالقضاء یا محکمہ شرعیہ کو دیا گیا ہو۔ بیوی کے علاوہ دوسروں کو طلاق کا اختیار دینا بنیادی طور پر تو ”توکیل“ ہے اور وکالت کبھی بھی واپس لی جاسکتی ہے، لیکن اگر کسی تیرے شخص کی چاہت و مشیخت پر طلاق کے استعمال کو موقوف کر دیا جائے تو ”توکیل“ کے بجائے ”تفویض“ ہے۔ اب شوہر اس اختیار کو واپس نہیں لے سکتا۔ فتاویٰ برازیہ میں ہے:

”لوقال لا جنبی طلاقها بيدك أو طلقها ان شئت كقوله أمرك بيدك يقتصر ولا يملك الرجعة.“^۲

ترجمہ: ”اگر جنبی شخص سے کہا کہ عورت کا حق طلاق تمہارے ہاتھ میں ہے، یا یہ کہ اگر تم چاہو تو

طلاق دے دو تو یہ ”تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں۔“ کہنے کی طرح ہے، کہ اس میں اختیار مجلس میں محدود ہے گا اور شوہر کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہو گا۔“ اور سراجیہ میں ہے:

”لوقال لأجنبي طلقها ان شفت ثم عزله لا يصح.“^۱
 ترجمہ: ”اجنبی شخص سے اپنی بیوی کی بابت کہے کہ اگر چاہو تو اسے طلاق دیدو، پھر اس کو اختیار سے معزول کر دے تو درست نہیں۔“

فتاویٰ برازیہ میں اختیار طلاق کو اسی مجلس تک محدود مانا گیا ہے کہ شرط کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عموم کو نہیں بتاتا ہے۔ اگر ”ان شفت“ (اگر تو چاہے) کی بجائے ”متنی شفت“ (جب بھی چاہے) کہا جائے تو پھر بعد از مجلس بھی اختیار باتی رہے گا۔

پس اگر کچھ شرطوں کے ساتھ دار القضاۃ کو حق طلاق تفویض کیا جائے اور یہ وسعت برقرار جائے کہ عورت قاضی شریعت کے پاس ثبوت شرعی کے ذریعہ ان شرائط میں کوتاہی ثابت کر دے، یادوں سے قرآن کی بناء پر قاضی کو عورت کے بیان کی صداقت پرطمینان ہو جائے تو وہ عورت کو طلاقی بائی دے سکتا ہے تو شاید یہ زیادہ بہتر صورت ہو۔

دو حالتوں کے ساتھ مشروط مهر کی مقدار

جوابات سوال نمبر (۳) و (۴)

طلاق اور نکاح ثانی کی صورت میں مهر کی مقدار میں اضافہ کا مسئلہ ایک ہی نوعیت کا ہے کہ دو حالتوں کے ساتھ مشروط مهر کی دو مقدار متعین کی جائے اور اس شرط میں عورت کا فائدہ ہو تو کیا حکم ہو گا؟ شرطیں معتبر ہوں گی یا نہیں؟ فقهاء کی رائیں اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔ مالکیہ اور شافعی کے نزدیک ایسی صورت میں مهر مشل واجب ہو گا۔

”وَ إِن تزوجها على أَلْفِ إِن لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ بَلْدَهَا وَ عَلَى الْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فَالْمَهْرُ فَاسِدٌ وَ يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ مُثْلِهَا.“^۲

ترجمہ: ”اگر ایک ہزار مهر پر نکاح کیا بشرطیکہ شہر سے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار مهر پر بشرطیکہ شہر سے باہر لے جائے تو مهر فاسد ہے اور مهر مشل واجب ہو گا۔“

امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى سے منقول ہے کہ دونوں تعین معتبر ہوگی۔ ابن قدامہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا بیان ہے:

”وان قال تزو جتك على ألف ان لم أخر جك من دارك وعلى الفين ان اخر جتك منها او على الف ان لم يكن لى امرأة وعلى ألفين ان كانت لى امرأة فنص أحمد على صحة التسمية في هاتين المسئلتين.“^{۱۶}

ترجمہ: ”اگر کہے: ایک ہزار پر تجھ سے نکاح کیا بشرطیکہ تجھ کو تمہارے میکہ سے باہر نہ لے جاؤں یا اس شرط پر کہ میری دوسری بیوی موجود نہ ہو اور دو ہزار مہر پر اگر تم کو میکہ سے باہر لے جاؤں یا یہ کہ میری کوئی اور بیوی ہو، ان دونوں صورتوں کی بابت امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی صراحت موجود ہے کہ تعین مہر اس طرح درست ہے۔“

آگے ابن قدامہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اس سلسلہ میں حنابلہ سے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے، مگر ترجیح اسی کو دیا ہے۔

امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور صاحبین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا نقطہ نظر

جہاں تک احناف کی رائے ہے تو اس سلسلہ میں امام صاحب اور صاحبین کا وہی اختلاف ہے جو سوالنامہ میں مذکور ہے۔ فقهاء نے اس ذیل میں کئی مسائل نقل کیے ہیں جو باہم مماثل اور متقارب ہیں، لیکن ان کے احکام میں فرق کیا گیا ہے۔ یہاں ان کا تذکرہ مناسب ہوگا:

ایک شخص نے نکاح کے وقت کہا کہ اگر منکوحہ خوبصورت ہو تو مہر دو ہزار اور خاندانی طور پر غلام تھی گواب آزاد ہے تو مہر ایک ہزار، تو اس صورت میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ دونوں شرطیں معتبر ہیں۔

ان دونوں صورتوں کی بابت ابن سماعہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى سے وہی اختلاف نقل کیا ہے جو ذیل کی صورت میں ہے؛ لیکن محققین نے ابن سماعہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی نقل کو قبول نہیں کیا ہے اور ان کو امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور صاحبین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے درمیان متفق علیہ مانا ہے۔

یہی حکم اس وقت بھی ہے جب نکاح کے وقت اس طرح مہر مقرر کیا جائے کہ اگر ناک کی کوئی اور بیوی بھی

موجود ہو تو دو ہزار، کوئی اور بیوی نہ ہو تو ایک ہزار، اب بھی دونوں شرطیں معتبر ہیں۔

ایک شخص نے نکاح کے وقت کہا کہ اگر میں تمہاری موجودگی میں دوسرا نکاح کروں، یا کہا کہ تمہارے شہر سے باہر لے جاؤں تو مہر دو ہزار ورنہ ایک ہزار ہوگا، اس صورت میں امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَانَ کے یہاں مہر مقررہ ایک ہزار ہوگا، اگر اس نے دوسرا نکاح نہ کیا تو ایک ہزار مہر ہوگا، دوسرا نکاح کر لیا تو دو ہزار اور مہر مثل میں سے جو کم ہو وہ واجب ہوگا، صاحبین رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَانَ کے نزدیک دونوں شرطیں معتبر ہوں گی۔

اوپر جو متفق علیہ صورتیں مذکور ہوئی ہیں، ان کی بابت نقول مختلف ہیں، تاہم راجح و مختار قول وہی ہے جو اپر مذکور ہوا۔

ان دونوں صورتوں میں فرق کی وجہ بتائی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوبصورت اور بدصورت ہونا ایک قابل مشاہدہ بات ہے، نکاح کے وقت کسی اور بیوی کی موجودگی و عدم موجودگی کی یا اس کا خاندانی طور پر آزاد ہونا یا غلام ہونا ان امور میں سے ہے جو پہلے سے واقع شدہ ہے اور آئندہ مرد کا دوسرا نکاح کرنا یا نہیں کرنا اور اس کو شہر سے باہر لے جانا یا نہیں لے جانا، مستقبل سے متعلق ہے، پہلی صورتوں میں "خطر" یا تو موجود نہیں یا خفیف ہے اور دوسری صورت میں "خطر" قوی ہے، دوسرے پہلی صورتوں میں نزاع کا اندیشہ نہیں ہے یا کم ہے، جب کہ اس دوسری صورت میں آئندہ نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ قوی ہے۔

درachi امام صاحب رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَانَ کا خیال ہے کہ ایک ہزار مہر متعین ہے اور چوں کہ مشرط واقعہ کا پیش آنا یقینی نہیں ہے، اس لیے دو ہزار مہر مجہول ہے۔ صاحبین رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَانَ کا خیال ہے کہ شرط اور اس شرط سے ہم رشتہ مقدار مہر دونوں معروف و متعین اور واضح وغیرہ ہم ہے، اس لیے نہ جہالت ہے اور نہ مستقبل میں نزاع کا اندیشہ ہے۔ واقعہ ہے کہ عملہ اس طرح کے معاملات میں نزاع پیدا نہیں ہوتی۔ اصول افتاء میں دونوں طرح کی رائیں موجود ہیں، یہ بھی کہ امام صاحب کے قول کو بہر حال صاحبین کے قول پر ترجیح دی جائے گی اور یہ بھی کہ مفتی کو دونوں میں سے کسی بھی قول کے اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

"ثُمَّ الْفَتْوَى عَلَى الْأَطْلاقِ عَلَى قَوْلِ أَبْيَ حَنِيفَةَ ثُمَّ بِقَوْلِ صَاحِبِيَّهِ ثُمَّ بِقَوْلِ أَبْيَ يُوسُفَ ثُمَّ بِقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثُمَّ بِقَوْلِ زَفَرِ بْنِ الْهَدَى لِلْيَهْدِيِّ ثُمَّ حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، وَقَيْلٍ: إِذَا كَانَ أَبْيَ حَنِيفَةَ بِجَانِبِ وَصَاحِبِيَّهِ فِي جَانِبِ فَالْمُفْتَنِ بِالْخِيَارِ وَالْأَوْلَ أَصْحَحُ." ۝

لِلْبَحْرِ الرَّانِقِ: ۱۶/۳، الدَّرَرُ المُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ: ۲۴۶/۲، خلاصۃ الفتاوی: ۲۷/۲

لِلْبَحْرِ الرَّانِقِ: ۱۶۳/۳، رَدُّ الْمُحْتَارِ: ۴۶/۲، سَلَةُ السَّرَاجِيَّةِ: ۱۵۷

ترجمہ: ”فتول مطلق امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، پھر صاحبین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، اس کے بعد امام ابو یوسف، پھر امام محمد، پھر بالترتیب امام زفر اور حسن بن زیاد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے قول پر ہوگا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر ایک طرف امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور دوسری طرف صاحبین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ہوں تو مفتی کو اختیار ہوگا۔ پہلا قول زیادہ درست ہے۔“

گوعلامہ سراج الدین اودی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے امام صاحب کے قول کے مقابلہ صاحبین کے قول پر فتویٰ کے غیر درست ہونے کو ترجیح دی ہے، لیکن عملاً ایسے سیکڑوں مسائل ہیں، جن میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے؛ اس لیے حاوی قدسی وغیرہ کی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی کہ قوت دلیل کی بناء پر صاحبین کے قول کو بھی ترجیح دی جاسکتی ہے۔ جب کہ قضاۓ و شہادت کے ابواب میں امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، ذوی الارحام کے مسائل میں امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور یہ امسائل میں تنہا امام زفر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا قول افتاء کی لیے راجح شمار کیا گیا ہے۔ تو صاحبین کے قول پر افتاء کا منوع ہونا ناقابل فہم ہے؛ حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اہل تحقیق کا خیال ہے کہ عام طور پر صاحبین کی رائے بھی امام صاحب ہی کے کسی قول پر مبنی ہوتی ہے۔

دوسرے مشائخ نے ان دونوں اقوال کو نقل کر کے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سا قول صحیح و راجح اور مفتی بہے؟ اور ایسے احکام میں ترجیح کا اصول کیا ہے؟ اس بابت علامہ حسکفی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى لکھتے ہیں:

”فَإِنْ قَلْتَ أَنْ يَحْكُمُوا أَقْوَالًا بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي الصَّحِيفَ، قَلْتَ يَعْمَلُ بِمِثْلِ مَا عَمِلُوا مِنْ اعْتِبَارٍ تَغْيِيرِ الْعَرْفِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ وَمَا هُوَ الْأَوْفَقُ وَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ التَّعَالِيمُ وَمَا قَوِيَّ وَجْهُهُ.“

ترجمہ: ”اگر تم کہو کہ مشائخ بلا ترجیح مختلف اقوال نقل کرتے ہیں اور قول صحیح کی بابت بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں میں کہوں گا کہ مشائخ کے طریقہ کے مطابق عمل کیا جائے یعنی عرف، لوگوں کے حالات، ان کے لیے آسان، لوگوں کے تعامل کے مطابق اور دلیل کے اعتبار سے قوی قول پر عمل کیا جائے۔“

تیسرا: موقعاً ضرورت میں قول ضعیف پر بھی فتویٰ کی گنجائش ہے۔ علامہ شاہی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اس پر تبرہ کرتے ہوئے کہ ”قول ضعیف پر فتویٰ کی گنجائش نہیں“ لکھتے ہیں:

”قَلْتَ نَكْنُ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْفُرْضِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي حِيطَنِ الْبَحْرِ فِي بَحْثِ الْأَوْلَى إِنَّ الدَّمَاءَ أَقْوَالًا ضَعِيفَةً ثُمَّ قَالَ وَفِي الْمَعْرَاجِ عَنْ فَخْرِ الْأَئْمَةِ لَوْ أَفْتَنِي مَفْتِتِ

بشي من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتسهيل كان حسنا، وكذا قول أبي يوسف في الممنى اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب جه الغسل ضعيف، وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله وذلك من مواضع الضرورة.”^{۱۶}

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے موقع پر ہے جہاں ضرورت درپیش نہ ہو؛ چنانچہ ”بجز“ کے باب اکیض میں خون جیض کے رنگوں کی بابت چند اقوال صاحب بحر نے نقل کئے ہیں۔ پھر کہا ہے کہ ”معراج“ میں فخر الامم سے منقول ہے کہ اگر مفتی موقع ضرورت میں ان اقوال میں سے کسی پر ازراہ سہولت فتوی دے تو بہتر ہوگا، اسی طرح کسر شہوت کے بعد منی نکلنے سے امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک غسل کا واجب نہ ہونا ضعیف قول ہے، لیکن مشائخ نے مسافر اور تہمت سے خائف مہمان کے لیے اس پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ اپنی جگہ آئے گا اور یہ موقع ضرورت میں ہے۔“

ہر چند کہ افقاء کے بابت اس اصول کا اتنی صراحة ووضاحت کے ساتھ غالباً کسی اور نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن عملانقه کی اکثر متبادل کتب میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ اب مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ ضرورت جیسے شخصی و انفرادی ہوتی ہے، اسی طرح اجتماعی اور سماجی بھی ہوتی ہے، اس وقت طلاق اور سنجیدہ و متین فیصلہ کے بجائے بعض موجودہ بیوی سے انتقام کے جذبہ کے تحت دوسرے نکاح پر مناسب حد تک روک لگانا ایک سماجی اور معاشرتی ضرورت ہے، اس لیے یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ ان مسائل میں حضرات صاحبین کے قول پر فتوی دیا جائے کہ اس سے سماجی اصلاحی اور معاشرتی نافعی کے سد باب کی توقع کی جاسکتی ہے۔

عورت کی طرف سے ملازمت کی شرط

جواب سوال نمبر (۲)

خاندانی زندگی کے بارے میں اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کسب معاش، خاندان کی کفالت اور گھر سے باہر کی ذمہ داریوں کی تکمیل مرد کے ذمہ ہے اور بچوں کی پرورش و تربیت اور امورِ خانہ داری کی انجام دہی عورتوں کے ذمہ۔ یہ عورتوں پر اسلام کا بڑا احسان اور اس کی فطرت و طبیعت کی رعایت ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُؤْتُكُنْ﴾^{۱۷} اس لئے جو ملازمتیں شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ کی جاسکتی ہیں، خواتین کے

لیے ضرورت و مجبوری کے بغیر ایسی ملازمتیں بھی مناسب نہیں، پھر بیویوں کا نفقة شوہر پر واجب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اس کے بال بچوں کی پرورش و تربیت کے لیے مجبوس اور گھری ہوئی ہے۔ اور اس نے سارا وقت اسی فریضہ مادری کی ادائیگی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔

عورت کا اپنے آپ کو گھر سے باہر کی ایسی مصروفیت سے فارغ رکھنا جو مرد کے "حق جس" کو متاثر کرتی ہو، واجب ہے یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے:

"وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُرْأَةُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ اذْنِ الْزَوْجِ لَمْ يَكُنْ لَّهَا ذَلِكُ." ۱۷

تَرْجِيمَه: "عورت شوہر کی اجازت کے بغیر علمی مجالس میں جانا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔"

اور علامہ حسکفی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَنْتَ اَعْلَمُ کا بیان ہے:

"لَهُ مَنْعِهَا مِنَ الْغُرْلِ وَ كُلِّ عَمَلٍ تَبْرُعًا لَا جُنْبِيَ وَ لَوْ قَابِلَةٌ أَوْ مَغْسَلَةٌ لِتَقْدِيرِ حَقِّهِ عَلَى فَرْضِ الْكَفَايَةِ وَ مِنْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ إِلَّا لِنَازْلَةٍ أَمْتَنَعُ زَوْجَهَا مِنْ سَوْالِهَا۔"

تَرْجِيمَه: "شوہر کو حق ہے کہ بیوی کو دھاگے کاتنے اور ایسے ہر کام سے روکے، گو وہ اجنبی شخص کے لیے تبرعاً نجام دے، خواہ وہ "دایہ" ہو یا غسلہ ہو، کیون کہ شوہر کا حق فرض کفایہ پر مقدم ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسے پیش آمدہ مسئلہ کی بابت ہو جس کو شوہر دریافت نہیں کر رہا ہو۔"

اس لیے عورت کے لیے ملازمت کی شرط مقصد نکاح کے مغار محسوس ہوتی ہے اور ایسی شرط کو غیر معین ہونا چاہیے۔ اگر مرد نے قبول بھی کر لیا تو بعد میں وہ عورت کو ترک ملازمت کا حکم دے سکتا ہے؛ البتہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہو یا عورت کا نفقة ادا نہ کرتا ہو تعتن کی راہ اختیار کر لکھی ہو، مجبور ہو کر عورت نے کوئی ایسی ملازمت کر لی ہو جو شرعاً جائز ہے تو قاضی تجربات و حالات کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہو گا کہ بہ یک دفعہ عورت کو ملازمت سے روک دیا جائے یا پہلے اندازہ قائم کیا جائے کہ مرد اپنے مطالبه میں واقعی سمجھدہ ہے یا بیوی کو مزید مشقت میں ڈالنے کی غرض سے ایک حکم شرعی کا سہارا لے کر محض اپنی مقصد برآری کرنا چاہتا ہے۔

هذا ماعندی والله الموفق للصواب

۱۷. هدایہ: ۴/۱۷ باب النفقة

۱۸. الخانیۃ علی هامش الہندیۃ: ۱/۴۳

۱۹. الدر المختار علی هامش الرد: ۲/۶۵

خلاصہ جوابات

۱ (الا) : ایسی شرطیں جو انہیں حقوق و فرائض کو موکد کرتی ہوں جو نکاح کی وجہ سے عائد ہوتی ہیں، معتبر و جائز ہیں۔

(ب) : ایسی شرطیں جو صحیت نکاح کی شرطوں میں سے کسی شرط کے ساقط ہونے یا نکاح کے لازم احکام میں سے کسی حکم میں تغیر و تبدل کو مستلزم ہوں معتبر نہیں؛ البتہ ایسی شرطوں کے باوجود بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔

(ج) : ایسی شرطیں جن سے عورت کو نفع پہنچتا ہو اور شریعت نے ان کو واجب قرار دیا اور ان سے منع کیا ہو، ان کے معتبر ہونے میں اختلاف ہے: احتجاف کے یہاں ایسی شرطیں معتبر نہیں ہیں، البتہ حنابلہ کے یہاں معتبر ہیں اور حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص و معاویہ بن ابی سفیان (رضی اللہ عنہما) کی بھی یہی رائے ہے اور موجودہ حالات میں اسی قول پر فتویٰ دیا جانا مناسب ہے۔

۲ تفویض طلاق کی تینوں ہی صورتیں جائز ہیں، البتہ:

(الا) : نکاح سے پہلے تفویض میں ضروری ہے کہ تفویض طلاق کی نسبت نکاح کی طرف ہو۔

(ب) : نکاح کے وقت تفویض میں ضروری ہے کہ عورت کی طرف سے پہل ہو۔

(ج) : نکاح کے بعد تفویض میں دونوں شرطیں نہیں ہیں، البتہ ان کا قبول کرنا یا نہیں کرنا مرد کے اختیار میں ہے۔
تفویض کی بہتر صورت یہ ہے کہ عورت کی بجائے دارالقصاء کو حق طلاق تفویض کر دیا جائے۔

۳، ۴ دو حالتوں کے ساتھ مہر کی دو مقدار کو مشروط کرنا صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور موجودہ حالات میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا جانا مناسب ہے۔

۵ حق جس مرد کا ویسا ہی حق ہے جسے نفقہ عورت کا حق ہے، اس لیے عورت کی طرف سے ملازمت کی شرط معتبر نہیں؛ ہاں اگر نکاح کے بعد مرد کے نفقہ ادائے کرنے کی وجہ سے عورت نے کوئی جائز ملازمت کی، شوہراس کو ترک کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور بیوی کو مستقبل میں شوہر کی جانب سے پھر عدم ادائیگی کا اندیشہ ہے تو اب قاضی کی صواب دید پر ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر مناسب فیصلہ کر لے۔



مسئلہ کفاءت پر ایک نظر

”کفاءت“ کے معنی برابری کے ہیں، ”کافاہ اذا ساوأه“ دربار رسالت ﷺ کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصروع ہے:

دروح القدس ليس له كفاءة

قرآن مجید میں بھی ”کفو“ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہے ﴿ولم يكُن له كفواً أحد﴾ لیکن فقهاء کے یہاں ”کفاءت“ ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مفہوم ہے: ”مساوات الرجل للمرأة او كون المرأة ادنى“ ترجمہ: ”مرد عورت کے برابر کا ہو یا اس سے فائق ہو۔“

اور مقصود یہ ہے کہ جس سے رشتہ کیا جا رہا ہو وہ ایسا نہ ہو کہ خود لڑکی یا اس کے اقربا اور اولیاء کے لئے اس سے رشتہ باعث نہ ک ہو کہ یہ بات امکانی طور پر مستقبل میں تعلقات کی ناپائیداری اور ناسازی کا موجب بن سکتی ہے۔

قرآن مجید میں اگرچہ صراحتاً کہیں اس مسئلہ کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ کے شان نزول کے سلسلے میں مختلف روایات نقل کی گئی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مسئلہ کفاءت ہی کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

احادیث میں گو ”کفاءت“ کا ذکر ہے مگر اس سلسلہ میں جو روایات منقول ہیں وہ بھی بالعموم ضعف سے خالی نہیں ہیں۔

❶ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے لئے ”کفو“ رشتہ مل جائے تو تاخیر نہ کرو۔ ”والا يمْرُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كَفْوًا“ امام ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا

لہ رد المحتار: ۳۱۷/۲ تہ حوالہ سابق

تہ ويشتمل على اغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والالفة وتأسیس القرابات والا بنتظام ذلك عادة الآباء
الاكفاء ارشاد السارى على البخارى: ۱۹/۸

تہ ترمذی: ۲۰۶/۱ مع العرف الشذى، باب ماجاء في تعجيل الجنائز

ہے کہ اس کی سند متصل نہیں ہے۔

”ماؤری اسنادہ متصل“۔^۱

۲ حضرت عائشہ رضویۃ اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اپنے نطفہ کے لئے بہتر رشتہ کا انتخاب کرو، اور کفو سے ان کا نکاح کرو۔ ”تَحِيرُوا النَّطْفَكُمْ وَ انْكُحُوا الْأَكْفَاءَ“، مگر یہ روایت بھی ضعیف ہے۔

۳ حضرت جابر رضویۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: عورت میں کفو ہی سے بیاہی جائیں ”لَا تنكحوا النِّسَاءَ إِلَّا أَكْفَاءَ“۔ یہ روایت دارقطنی کی ہے! اور ضعیف ہے مصنف عبدالرزاق میں حضرت عمر رضویۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض آثار ”کفاءت“ کے سلسلے میں نقل کئے گئے ہیں۔ مگر وہ بھی پایہ صحت کو نہیں پہنچتے۔ غالباً اسی لئے امام شافعی رحمہمہا اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کے بجائے کفاءت کے ثبوت کے لئے حضرت بریرہ رضویۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے ”خیار حق“ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے اور آزاد ہونے کے بعد ان کو فتح نکاح کا اختیار دینے کی وجہ اسی نابرابری کو قرار دیا ہے کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق حضرت بریرہ رضویۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے وقت ان کے شوہر حضرت مغیث غلام تھے، اور غلام آزاد عورت کا کفو نہیں ہو سکتا۔

تاہم اگر بہت سے ائمہ مجتہدین کے تسلیم کر لینے کی وجہ سے کفاءت کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کن امور میں کفاءت کا اعتبار ہوگا؟۔ مجموعی حیثیت سے فقهاء نے ۹/امور میں کفاءت کا اعتبار کیا ہے۔

① نسب و خاندان ② آزادی ③ اسلام یعنی خاندان مسلمان ہونا ④ دیانت و تقویٰ ⑤ مال اور

لہ جمع الفوائد للقرزوینی میں ہے ضعیف: ۲۱۸/۱، بخاری اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں: مدارہ علی انس ضعفاء السقاصل الحسنة: ص: ۵۴۔ ۲۶۲۔ زلمی کہتے ہیں: من طرق عديدة كلها ضعيفة، نصب الرابیه: ۱۸/۲
لہ ابن ماجہ: ۳۶۲/۱ باب الاکفاء۔

لہ حافظ ابن حجر کا اس حدیث کے بارے میں بیان ہے: اسنادہ واہ لان فیہ بشربن عبید وہو کذاب، الدراية علی هامش الهدایہ: ۲۹۹.۲، حافظ ابن عبد البر نے اس حدیث کو بے اصل اور ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ هذا ضعيف لا اصل له ولا ي Hutchinson
یعنی لا ہبہ قدره رحمة الله تعالى

لہ ملاحظہ ہو: مصنف عبدالرزاق: ۱۵۲/۶ باب الاکفاء: سنن کبریٰ للبیہقی: ۱۲/۷ باب اعتبار الکفائنہ۔
لہ خیار حق سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت باندی ہونے کی حالت میں بیاہی گئی، تو اس کو نلامی کی حالت کا نکاح ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کئے جانے کے وقت ان کے شوہر حضرت مغیث آزاد تھے، اس لئے امام ابوحنیفہ کے نزدیک خیار حق ایک مستقل حکم شرعی ہے، اس کا کفاءت سے کوئی تعلق نہیں آزاد شدہ عورت کو بہر حال خیار حاصل ہوگا۔

لہ دیکھئے: شرح مہذب: ۱۸۲/۱۶ فتح الساری: ۴۰۷/۹

معاشی سطح ۶ حسب و خاندانی وجاهت ۷ صنعت و حرفت اور پیشہ ۸ عیوب سے محفوظ ہونا ۹ عقل۔

۱ کفاءت فی الدین

اخلاق و دیانت میں کفاءت سے مراد ہے کہ فاسق و فاجر مرد صالح و نیک عورت کا کفوئیں ہو سکتا۔

”حتی لبو ان إمرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للاولياء حق الا اعتراض لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب“

ترجمہ: ”یہاں تک کہ اگر صالحین کے خاندان کی کوئی عورت اپنا نکاح کسی فاسق شخص سے کر لے تو اولیاء کو اعتراض کا حق ہوگا..... اس لئے کہ دینداری نسب و خاندان سے زیادہ باعث تفاخر ہے۔“

اگر لڑکی خود صالح ہو لیکن اس کے خاندان کے لوگ صالح نہ ہوں، یا خاندان کے لوگ صالح ہوں لیکن لڑکی صالح نہ ہو تو، ایسی صورت میں کس کی کیفیت اور حالت کا اعتبار ہوگا؟ اس میں فقهاء کی رائیں مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے خاندان کے لوگوں کی دینی حالت کو معتبر مانا ہے۔ پس اگر خاندان کے لوگ فاسق ہوں اور خود لڑکی صالح ہو تو فاسق کو اس کا کفوئیہ جائے گا۔ بعض لوگوں کی رائے اس کے برعکس ہے کہ خود لڑکی کی دینی کیفیت کا اعتبار ہوگا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ لڑکی خود صالح ہو یا وہ صالح نہ ہو لیکن اس کے خاندان کے لوگ صالح ہوں، ہر دو صورت میں فاسق اس کا کفوئیں ہوگا۔ ابن نجیم مصری رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لکھتے ہیں:

”والظاهر ان الصلاح لو منها او من آبائها كاف لعدم كون الفاسق كفأ لهم“

ترجمہ: ”ظاہر یہ ہے کہ عورت یا اس کے آباء و اجداد و نوں میں سے کسی کا بھی دیندار ہونا اس بات کے لئے کافی ہے کہ فاسق ان کا کفونہ ہو سکے۔“

دینداری اور دیانت و اخلاق کا معتبر ہونا قریب قریب فقهاء کے نزدیک متفق علیہ ہے، بلکہ امام مالک رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کے نزدیک صرف دینداری ہی میں کفاءت کا اعتبار ہے کسی اور چیز میں نہیں، ”وقال مالك: الکفاءة في الدين لا غير.“ ۱۶

اور کیوں نہ ہو کہ حدیثیں کثرت سے اس پر شاہد ہیں، آپ نے فرمایا:

”تنکح المرأة لاربع لما لها ولحسبيها ولجما لها ولدينهما فاظفر بذات الدين“

تریت یداک“ ۱۷

۱۶۔ شہ بدانع الصنائع: ۲۰/۲۔ شہ البحر الرائق: ۲/۶۲۔ شہ المغنى: ۷/۱۶۔

۱۷۔ شیخ بخاری شریف: ۲/۶۶ باب الاکفاء فی الدین۔ ”تریت یداک“ عربی میں دعاء و بدعا در دنوں کے لئے مستعمل ہے۔ یہاں بطور دعا ہے۔

تَرْجِمَة: ”عورت سے چارو جوہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال، حسب۔ جمال اور دین کی بنیاد پر، تو دیندار کا انتخاب کر کے تو کامران ہو، تیرے ہاتھ خاک آ لودھوں۔“
ایک اور روایت میں ہے:

”اذا اخطب اليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة في
الارض وفساد عريض“^۱

تَرْجِمَة: ”تمہارے ہاں جب ایسا شخص پیغام نکاح دے جس کی دینی اور اخلاقی حالت تمہارے
نzdیک پسندیدہ ہے تو قبول کرو اور نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں میں یہ بڑے فتنہ و فساد کا
باعث بن جائے گا۔“

اس بارے میں صرف امام محمد رَحْمَةُ اللہُ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ کا اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ امام محمد رَحْمَةُ اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے
نzdیک دین امور آخرت میں سے ہے اور نکاح وغیرہ معاملات دنیا ہیں۔ لہذا دین میں کفاءت کا اعتبار نہ ہوگا،
لیکن اس ولیل کا سبق محتاج اظہار نہیں، اسلام کی نگاہ میں نکاح بھی منجملہ اعمال آخرت کے ہے، یہی وجہ ہے کہ
مشرک سے نکاح کو منع کیا گیا ہے اور فقهاء نے بعض حالات میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کو بھی مکروہ
قرار دیا ہے۔

تاہم امام محمد رَحْمَةُ اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے نzdیک بھی اگر مرد کا فسق اس درجہ بڑھا ہوا ہو کہ لوگ اس سے تسری
واستہزاء کرتے ہوں۔ ”الا اذا كان يصفح ويسلخ منه او يخرج الى الاسواق سكران يلعب به
الصبيان لانه مستخف به“ اسی طرح جو شخص اعلانیہ شراب پیتا ہو وہ بھی صالحہ عورت کا کفو نہیں ہو سکتا۔
”وان كان يعلن ذلك فلا قيل وعليه الفتوى“ لیکن فسق کے باوجود زمام اقتدار اگر کسی شخص کے ہاتھ
میں ہوتا وہ صالح کا کفو ہوگا، کاسانی رَحْمَةُ اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کہتے ہیں:

”فَإِنْ كَانَ مِنْ يَهَابِ مِنْهُ بَانَ كَانَ أَمِيرًا فَقَا لَا يَكُونَ كَفُوًّا لِالآنِ هَذَا الْفَسقُ
لَا يَعْدُ شَيْئًا فِي الْعَادَةِ فَلَا يَقْدِحُ فِي الْكَفَاءَةِ.“^۲

تَرْجِمَة: ”اگر ایسا شخص جس کی بیت محسوس کی جاتی ہو مثلاً امیر ہو تو صاحبین نے کہا کہ وہ صالحہ کا
کفو ہوگا اس لئے کہ یہ فسق عادۃ قابل شمار نہیں ہوتا لہذا یہ کفاءت میں مانع نہ ہوگا۔“

جہاں عملی اعتبار سے صلاح و فسق کفاءت میں معتبر ہے، وہیں اعتقادی فسق بھی کفاءت میں معتبر ہونا چاہیے

سلہ سنن ترمذی عن ابی هریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ۲۰۷ باب ماجاء فی من ترضون دینه

سلہ هدایہ: ۳۰۰/۲ سلہ رد المحتار: ۲۲۱/۲ سلہ بدائع الصنائع: ۲۱۷/۲

یعنی اگر کڑی صاحبِ العقیدہ اور اہل سنت میں سے ہے اور مرد کسی ایسے گمراہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہو جس کی گمراہی کفر صریح تک نہیں پہنچی ہو تو مرد کو غیر کفو سمجھا جائے گا، فقہاء نے عام طور پر کفاءت کے ذیل میں اس مسئلہ کو نہیں چھینا ہے لیکن تشیع کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔

ابن قدامة رَحْمَةُ اللَّهِ لَتَعَالَى نے اسبابِ کفاءت پر بحث کرتے ہوئے ایک فصل "اہل بدعاً" پر قائم کی ہے اور لکھا ہے:

تَرْجِمَة: ”لڑکی کی شادی حروری جو دین کے دائرہ سے نکل چکا ہو۔ راضی اور قدریہ فرقہ کے شخص سے نہ کرے۔“

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ جن حضرات نے مختلف امور میں کفاءت کا اختبار کیا ہے ان کے نزدیک بھی دین اور اخلاق میں کفاءت کا لحاظ کرنا اور دوسرے اسباب کفاءت سے صرف نظر کرنا افضل اور بہتر ہے:

”وعندنا الا فضل اعتبار الدين والا فتتصار عليه“^{٣٧}

تَرْجِمَة: ”ہمارے نزدیک افضل طریقہ دین میں کفاءت کا اعتبار کرنا اور صرف اسی پر اکتفا کرنا ہے۔“

٢) كفاءت في الحرية

اکثر فقہاء کے نزدیک آزادی اور غلامی ان امور میں سے ہے جن میں کفاءت معتبر ہے۔ ابن قدامہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا بیان ہے:

”فاما حرية فالصحيح انها من شروط الكفاءة فلا يكون العبد كفوأ للحرة“^{٢٦}

ترجمہ: صحیح یہ ہے کہ آزادی بھی من جملہ اسپاٹ کفاءت کے ہے، لہذا غلام آزاد کا کفونہ ہو گا۔

فقہاء نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ غلام آزاد عورت کا، ایسی عورت کا جو خود بھی آزاد ہو، اس کا باپ بھی، ایسا مرد جو خود آزاد ہوا اور اس کا باپ غلام نیز ایسی عورت کا جس کے باپ اور دادا دونوں آزاد ہوں، ایسا مرد جو خود اور اس کا باپ آزاد ہوا اور دادا غلام، کفونیس ہو سکتا۔

البیتہ آزادی اور غلامی میں کفاءت کا اعتبار صرف عجیبوں کے درمیان ہے۔

^٥ “الحرية والاسلام فيما معتبران في حق العجم”^٦

اب آزادی اور غلامی کا مسئلہ قصہِ ما پی اور زینت تاریخ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔

۳ مال میں کفاءت

مال میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے، عام طور پر فقہاء نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے کہ فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْهَا بنت قیس کو حضرت معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نے نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ سے مشورہ کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے ان کی مفلوکِ الحالی کا ذکر کیا اور حضرت اسامہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ سے نکاح کا حکم دیا۔ ”اما معاویۃ فصل علوک لا مال لَهُ“ آپ سے نقل کیا گیا کہ مال ہی حسب ہے۔ الحسب المال اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماج اور عرفِ عام میں مال کو عزت و احترام کی نظر سے اور مفلس و فلاش کو مم نگاہی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ”لَانِ ذَلِكَ مَعْدُودٌ نَفْصَافِي عَرْفِ النَّاسِ۔“^۱

مال میں کفاءت کے قائل امام ابو حیفہ، امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس کے قائل نہیں، امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس سے بھی دور وابستہ ہیں فقہاء احناف میں امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس کا اختلاف نقل کیا گیا ہے، اس لئے کہ مال آنی جانی چیز ہے، جس کو قرار نہیں۔ لانہ لا ثبات له اذ المآل غاد و رانع نیز اس لئے کہ فقر گو عرف میں معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن دین کی نگاہ میں یہ شرف و عزت ہے اسی لئے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے اپنے لئے اس کی دعا فرمائی ہے۔ ”اللَّهُمَّ احْيِنِنَا مَسْكِينًا وَأَمْتَنِنَا مَسْكِينًا“^۲ پھر جن لوگوں نے مال میں کفاءت کا اعتبار کیا ہے ان کے بہاں بھی اس کی تفصیل و تحدید میں اختلاف ہے۔ احناف کے بہاں مشہور اور مفتی بقول یہ ہے کہ دونوں کی معاشی سطح میں یکسا نیت ضروری نہ ہوگی بلکہ اگر مرد مہر میں ادا کرنے پر قادر ہو اور نفقہ دے سکتا ہو تو وہ متمول سے متمويل خاندان کا کفوہ ہوگا۔

”وَالْمُعْتَبِرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى مَهْرِ مُثْلِهَا وَلَا تُعْتَبِرُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّىٰ أَنَّ الْزَوْجَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى مَهْرِ مُثْلِهَا يَكُونُ كَفَالَّهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَسَاوِيهَا فِي الْمَالِ۔“^۳

ترجمہ: ”اس میں اعتبار مہر میں پرقدرت کا ہے، اس سے زیادہ کا اعتبار نہیں، چنانچہ شوہر کسی عورت کا مہر میں ادا کر سکتا ہے لیکن معاشی اعتبار سے اس کا ہم پایہ نہ ہو تو وہ اس کا کفوہ شمار ہوگا۔“

۱۔ بیہقی: ۱۳۵/۷ باب اعتبار الكفاءة سے حوالہ سابق: ۱۳۶۔ ۲۔ المعنی: ۲۸/۷۔ ۳۔ المعنی: ۲۸/۷۔

۴۔ مداہیہ: ۲۰۹/۲۔ ۵۔ المعنی: ۲۹/۷۔ ۶۔ بدائع الصنائع: ۳۱۹/۲۔

یہی رائے حنابلہ کی ہے:

”والیسار المعتبر ما يقدر به على الانفاق عليها حسب ما يحب لها ويمكنه
اداء مهرها.“^۱

ترجمہ: ”معاشی خوشحالی میں جس بات کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ جوں جوں نفقة واجب ہوتا جائے،
وہ اس کے ادا کرنے پر قادر ہو، نیز اس کا مهر بھی ادا کر سکتا ہو۔“

مگر معلوم ہوتا ہے کہ حالات زمانہ کے تحت فقهاء نے بتدریج اس میں مزید نرمی پیدا کی ہے چنانچہ حکمی
نے اس بات کو کافی قرار دیا کہ مهر کے اتنے حصہ کی ادائیگی پر قادر ہو جو عام طور پر بخلت ادا کیا جاتا ہو، اس کے
علاوہ ایک ماہ کا نفقة ادا کر سکتا ہو اور صنعت پیشہ ہو تو روز کاروز نفقة ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شامی کا بیان
ہے کہ زبانی نے بعض حضرات سے مزید سہولت نقل کی ہے کہ اگر مهر کی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا، ہم نفقة ادا کرنے کی
صلاحیت رکھتا ہو تو یہ بھی کفاءت کے لئے کافی ہو گا۔^۲

جب کہ امام ابو بکر اسکاف رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى کی رائے ہے کہ صرف مهر و نفقة پر قدرت کافی نہیں ہے بلکہ یہ
بات بھی ضروری ہے کہ مرد کی معاشی سطح عورت کی معاشی سطح سے بہت زیادہ متفاوت نہ ہو، ”مجتبی“ میں اس قول
کی نسبت امام ابوحنیفہ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى کی طرف کی گئی ہے، این بحیث رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى نے ”نوازل“ سے امام
ابو بکر اسکاف رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى کی رائے ان الفاظ میں نقل کی ہے

”اذا كان للرجل عشرة آلاف درهم يریدان يتزوج امرأة لها مائة ألف واخوه لا
يرضي بذلك كان لاخيها أن يمنعها من ذلك.“^۳

ترجمہ: ”کوئی مرد جس کو دس ہزار درہم حاصل ہوں، ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہے جو ایک لاکھ
درہم کی ملک ہو اور لڑکی کا بھائی اس پر راضی نہ ہو، تو اس کو حق ہے کہ اپنی بہن کو اس نکاح سے روک دے۔^۴
موجودہ زمانے میں شادی بیاہ میں معاشی حیثیت اور سطح نے جواہیت حاصل کرنی ہے اور جس طرح اکثر
اوقات یہ چیز ازدواجی زندگی میں تین چھٹی اور احساس کمتری و برتری کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاشی
سطح اور معیار میں اگر غیر معمولی تفاوت ہو تو کفاءت کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔

۲) عیوب سے محفوظ ہونے میں کفاءت

فقہاء شوافع کے نزدیک کسی صحبت مند عورت کا کفوہی مرد ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتبار سے عجین قسم کے نقص

سلہ المغنى: ۲۹/۷ سلہ در مختار علی هامش الرد: ۳۲۱/۲ سلہ رد المحتار: ۳۲۱/۲ سلہ البحر الروانی: ۱۳۲/۳

سے خالی ہو جیسے جنون، جذام، برص۔ بعض فقهاء نے اس کو ”کفایت فی الحال“ سے تعبیر کیا ہے۔ ”والحال وہوان یکون الزوج سالمًا من العیوب الفاحشة۔“^۱

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس کے قائل صرف شافع ہیں لیکن دوسرے فقهاء نے اس کو کفایت کی اساس نہیں قرار دیا ہے اور اس لئے نکاح کے لزوم کے لئے اس بات کو ضروری نہیں مانا ہے کہ وہ ان عیوب سے خالی ہو لیکن مالکیہ اور حنابلہ نے بھی ان امراض کی بنا پر عورت کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اس مرد سے تفریق کا مطالبہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى کے یہاں تو نامردی اور ”جب“ کے سوا دوسرے امراض و عیوب کی بنا پر عورت تفریق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن امام محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى کا مسلک وہی ہے جو مالکیہ اور حنابلہ کا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے تاہم اختلاف اس بات میں رہ جاتا ہے کہ شافع کے شافع کے اولیاء بھی تفریق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ”کفایت“ سے متعلق ہے اور کفایت صرف عورت ہی کا نہیں بلکہ اولیاء کا بھی حق ہے، جبکہ دوسرے فقهاء کے نزدیک تفریق کا مطالبہ صرف عورت ہی کر سکتے ہیں۔ ”ولکنها ثبت الخيار للمرأة دون الأولياء۔“^۲

۵) عقل میں کفایت

کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فقهاء کے نزدیک ”عقل“ میں بھی کفایت کا اعتبار ہے۔ یعنی ایک سفیر، معتوہ یا پاگل ایسی عورت کا کفوئیں ہو سکتا جو ”عقل“ یعنی عقل کے اعتبار سے متوازن ہو۔ ہرچند کہ اس کی صراحت نہیں ملتی کہ کون لوگ ہیں جو عقل میں کفایت کے قائل ہیں لیکن فقہی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود فقهاء احناف میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ شامی نے قاضی خان سے نقل کیا ہے کہ اس مسئلہ میں متفقین سے تو کچھ منقول نہیں لیکن متاخرین کے درمیان اس کے معتبر ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن حبیم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى مصری کہتے ہیں کہ اس میں کفایت کا اعتبار نہیں لہذا پاگل آدمی ایک صحیح عقل والی عورت کا کفو بھی ہو سکتا ہے تاہم مشائخ کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔

میرا خیال ہے کہ عقل اور دماغی توازن ان امور میں سے ہے کہ مصالح نکاح کی تکمیل اور عدم تکمیل کا اس

سلہ ارشاد المساری علی البخاری: ۱۹/۸۔ سلہ ملاحظہ ہو، المغنی: ۳۹/۸، بحر: ۳/۱۴۴۔ سلہ بداية المجتهد: ۵۰/۲۔

سلہ المغنی: ۲۹/۷۔ سلہ المغنی لا بن قدامة: ۱/۱۳۲۔

کہ اما العقل فلا رواية عن اصحابنا المتفقين مختلف فيهم في المتأخرة رد المحتد: ۲/۲۶۴۔

سلہ فالمحجنون كفوة للعاقلة وفيه اختلاف بين المشائخ البحرون الروانق: ۳/۲۱۴۔

سے گہرا تعلق ہے۔ گو فقهاء اس کی بناء پر مطالبه تفریق کا حق دیتے ہیں لیکن بمقابلہ کفاءت کے عیب کی بناء پر تفریق کا مطالبه کرنے میں عملی دشواریاں زیادہ ہیں، اس لئے اگر زوج اس درجہ سفیر العقل ہو کہ جنون کے درجہ کو پہنچا ہوا ہو تو اس میں کفاءت کا اعتبار کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں علامہ شامی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی تحریر لائق مطالعہ ہے:

”قالَ فِي النَّهَرِ وَقِيلَ يَعْتَبِرُ لِأَنَّهُ يَغْوِي مَقاصِدَ النِّكَاحِ فَكَانَ أَشَدُ مِنَ الْفَقْرِ وَدَنَاءَ
ةِ الْحَرْفَةِ وَيَنْبَغِي إِعْتِمَادُهُ لَانَّ النَّاسَ يَعْبُرُونَ بِتَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ أَكْثَرُ مِنْ دُنْيَ
الْحَرْفَةِ الدِّينِيَّةِ فِي النِّهَايَةِ عَنِ الْمَرْغِيْنَانِيِّ لَا يَكُونُ الْمَجْنُونُ كَفُوًا لِلْعَاقِلَةِ“۔
ترجمہ: ”نہر میں ہے کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ عقل میں بھی کفاءت کا اعتبار ہے کیونکہ (اس
کا اعتبار نہ کیا جائے تو) مقاصد نکاح فوت ہو سکتے ہیں، لہذا عقل و دانش میں کفاءت فقر اور پیشہ کی
کفاءت سے بڑھ کر ہے اور اسی پر اعتماد کیا جانا چاہیے، اس لئے کہ لوگ پاگل سے شادی کے
بمقابلہ کمتر پیشہ والے سے زیادہ باعث عار سمجھتے ہیں لہذا پاگل عاقل کا کفوئیں ہو گا۔“

بلکہ اس کم سواد کی رائے ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل مجنون اور پاگل نہ ہو لیکن اس درجہ خفیف العقل اور سفیر
ہو کہ لوگ اس کا تمثیر کرتے رہتے ہوں اس کو بھی شائستہ گھرانے کی عورت کا کفوئیں ہونا چاہیے کہ اس کی
سفاهت عورت کے لئے پیشہ کی دناءت اور فقر و افلاس سے کہہ رہا زیادہ باعث نہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام
محمد گو فاسق کو صاحب خاندان کی صالحہ لڑکی کے لئے کفوئیتے ہیں، تاہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس درجہ نشہ خوار
ہو کہ لوگوں کیلئے تماشہ اور کھلونا بن گیا ہو تو اب وہ کسی صالحہ کا کفوئیں ہو سکتا۔ ”إِلَّا إِذَا كَانَ يَصْفَحُ وَيَسْخُرُ
مِنْهُ أَوْ يَخْرُجُ إِلَى الْأَسْوَاقِ سَكْرَانٌ وَيَلْعَبُ بِهِ الصَّبِيَّانُ لَا نَهُ مُسْتَخْفَفُ بِهِ۔“

۲) اسلام میں کفاءت

عام فقهاء کے یہاں نو مسلم عام مسلمانوں کے کفوئیں، عرب ہوں یا عجم، ابن قدمہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا
بیان ہے:

”مِنْ أَسْلَمَ أَوْ عَنِقَ مِنْ الْعَبْدِ فَهُوَ كَفُولٌ مِنْ لِهِ أَبْوَانٍ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرْبِ وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِكَفَاءٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَكْثَرُهُمْ أَسْلَمُوا وَكَانُوا
أَفْضَلُ الْأُمَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَالَ إِنَّهُمْ غَيْرُ أَكْفَاءٍ لِلتَّابِعِينَ“۔

ترجحہ: ”نومسلم اور آزاد ایسے شخص کا کفوہ ہے جو دو پشتوں سے مسلمان اور آزاد ہو، امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ نے فرمایا کہ کفونیں ہے اور یہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اکثر صحابہ نو مسلم تھے جو اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔“

عربوں کے بارے میں احناف بھی تفقیح ہیں کہ ان کے درمیان نو مسلم اور قدیم الاسلام افراد برابر ہیں اور ایک دوسرے کے کفوہ ہیں، لیکن عجمیوں کے بارے میں تفصیل ہے کہ جس شخص نے خود اسلام قبول کیا ہوا اور اس کے والدین کافر ہوں، اور جس کے والدین کافر ہوں اور خود مسلمان ہو وہ امام ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک ایسے شخص کا کفونیں جس کے خاندان میں دوپشتوں سے اسلام ہو، البتہ ایسا شخص جس کے یہاں دوپشت سے اسلام ہو یعنی پاپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، وہ تمام مسلمانوں کا کفوہ ہے چاہے وہ پشتہا پشت سے مسلمان ہوں۔ قاضی ابو یوسف کو اس کے ایک نکتہ میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک جس کے والدین مسلمان ہوں یعنی ایک پشت سے اس کے خاندان میں اسلام ہو تو وہ تمام مسلمانوں کے کفوہ ہیں۔

شامی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ نے اور ابو یوسف کا یہ اختلاف حقیقی اختلاف نہیں بلکہ اختلاف حالات کا نتیجہ ہے..... پھر فقہاء نے عرب و عجم کے درمیان اس مسئلہ میں فرق کی جو وجہ لکھی ہے وہ یہ کہ عرب اسلام پر فخر نہیں کرتے بلکہ نسب پر فخر کرتے ہیں..... ”لَا يَتَفَاخِرُونَ بِهِ وَيَتَفَاخِرُونَ بِالنَّسَبِ“..... اب غور کیا جائے کہ کیا کسی قوم کا اسلام کے مزاج و مذاق اور اس کی روح واصل کے خلاف بلکہ اس کے عین بر عکس دین کے بجائے خاندان کو ذریعہ افتخار بنالینا بھی ایسی بات ہے جو قابل لحاظ ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ کے لئے کتاب و سنت میں کوئی مضبوط یا کمزور بنیاد نہیں ہے اور صراحةً و عبارت سے تو کجا اشارہ بھی غالباً کوئی نص اس پر دلالت نہیں کرتی، اس میں فقہاء نے سماج اور سوسائٹی کے مزاج و مذاق کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے، اسی لئے کاسانی لکھتے ہیں کہ ایسی آبادی جہاں قریبی زمانہ میں ہی اسلام پھیلا ہوا اور نو مسلم ہونا عیب نہ سمجھا جاتا ہو وہاں کے لئے یہ حکم نہ ہوگا؟

”فَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ عَهْدًا لَا سِلْمَرْ قَرِيبًا بِحِيثِ لَا يَعِيرُ بِذَلِكَ وَلَا يَعِدُ عَيْبًا عَيْبًا يَكُونُ بِعِصْمِهِمْ كَفَأُ لِبَعْضِهِمْ لَأَنَّ التَّعِيرَ إِذَا لَمْ يَجْبَرْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَعِدْ عَيْبًا لَمْ يَلْعَقْ الشَّيْنَ وَالنَّقِيْصَةَ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّرُّ.“^۱

سلہ شامی: ۳۱۹/۲، بحر: ۱۳۲/۲

۱۔ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّمَا قَالَ وَفِي مَوْضِعٍ لَأَبْعَدَ كَفَرَ الْجَدِعِيْبَا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْأَبْ مُسْلِمًا وَهُمَا قَالَا هُوَ فِي مَوْضِعٍ يَعْدِيْبَا رَدِ الْمُحْتَار: ۳۱۹/۲ ۲۔ رَدِ الْمُحْتَار: ۱۳۱۹/۲ ۳۔ بَدَائِعُ الصَّنَاعَةِ: ۳۱۹/۲

ترجمہ: ”اگر ایسی جگہ ہو جہاں قریبی زمانہ میں اسلام آیا اور وہاں نو مسلم ہونا باعث عار اور عیب نہ سمجھا جاتا ہو، تو وہاں لوگ باہم ایک دوسرے کے کفو ہوں گے کیونکہ یہ عیب نہیں شمار کیا جاتا ہے تو عیب و نقش کا باعث نہ ہوگا اور ضرر بھی متحقق نہ ہوگا۔“

۷ ذریعہ معاش میں کفاءت

فقہاء نے کفاءت کی ایک اساس ذریعہ معاش اور پیشہ کو بھی قرار دیا ہے امام احمد سے اس سلسلہ میں دو قول منقول ہیں امام ابو حنیفہ کا قول مشہور یہی ہے کہ صنعت و حرفت اور پیشہ معاش میں کفاءت کا اعتبار نہ ہوگا، ”المروى عن أبي حنيفة أن ذلك غير معتبر أصلًا“ قاضی ابو یوسف کے نزدیک ایسے پیشے کے لوگ جن کے پیشوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے پیشے کے لوگوں کے کفوہیں ہو سکتے فقہاء نے اس کی تفصیل اس طرح نقل کی ہے کہ ایک ہی پیشے کے لوگ باہم ایک دوسرے کے کفوہیں، اسی طرح مختلف پیشوں کے لوگ جن میں زیادہ فرق نہ ہو اور جو سماج میں قریبی درجہ کے سمجھے جاتے ہوں وہ ایک دوسرے کے کفوہ متصور ہوں گے، ”ان العرف متى تقربت لا يعتبر التفاوت“ چنانچہ جلا ہا، حمام (پھنسنے لگانے والے) چڑے کی صفائی کا کام کرنے والے (دیباخ) جاروب کش اور پیشیل کا کام کرنے والے اوہار کے کفوہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح کپڑا فروش رنگریز کے اور رنگریز دوا فروش کے کفوہ ہو سکتے ہیں جہاں پیشوں میں بہت فرق ہو وہاں کمتر پیشے والے اعلیٰ پیشے کے لوگوں کے کفوہ نہ ہوں گے، چنانچہ جلا ہے، جاروب کش اور حمام (حلاق) وغیرہ کپڑوں اور ادویہ کے تاجر وہ کفوہ نہ ہوں گے۔ اختلاف کے بیہاں اسی پر فتویٰ ہے۔ ”قال شمس الائمه الحلوانی عليه الفتوى“ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران و ملازمین کے کفو، درجہ چہارم کے ملازمین نہیں ہو سکتے چنانچہ فراش، دربان، وغیرہ کو تاجر کا کفوہیں مانا گیا ہے۔ بخلاف دوسرے ملازمین کے، اسی طرح اساتذہ و اسکالارس کا شمار اعلیٰ پیشہ میں ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو فرماز وائے وقت کا کفو مانا گیا ہے۔ ”وينبغى أن من له وظيفة تدریس أو نظر يكون كفؤ البنت الامير بمصر.“^۱

فقہاء متقدمین کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشوں میں دینی اور شرعی قباحت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ حکلی نے ظالم حکمرانوں کے ساتھ لگ کر روزی روٹی کا سامان بھی پہنچانے والوں کو سب سے خیس اور ذلیل اصحاب پیشہ قرار دیا ہے۔ ”وأما أتباع الظلمة فأخص من الكل“ ابن حکیم رحمہم اللہ تعالیٰ لے بھی تعبیر کے کچھ فرق کے ساتھ یہی بات نقل کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ”شاکری“ اور ”تابع“ کہا جاتا ہے

سلہ المفہی: ۲۹/۷ سلہ المبسوط: ۲۵/۵ سلہ بداع الصناع: ۳۲۱/۲ سلہ بحر: ۱۳۲/۳

سلہ بحر: ۱۳۲/۲، بداع: ۳۲۱/۲ سلہ هندیہ: ۱/۲۹۳ سلہ البحر الراونق: ۳/۱۳۲ سلہ در مختار علی هامش الرد: ۲۲۲/۲

یہ کو صاحب وجاہت اور صاحب مال ہوں، پھر بھی ان کو خسیں ہی سمجھا جائے گا۔ ”وهو الذی يخدم الظلمة بدعى شاکریا ونا بعدها وإن كان صاحب وجهه ومال فظلمه خصاصة“، لیکن چونکہ کفاءت کے مسئلہ کا اصل تعلق عرف سے ہے اس لئے شامی کا رجحان یہ ہے کہ یہ بات اس زمانے کے لئے تھی جب خیر کا غالبہ تھا، اور تقویٰ باعثِ افتخار تھا، اب کہ دنیا ہی سرمایہ فخر ہے، ایسے لوگوں کو خسیں شمار کرنا قابل غور ہے۔ ”کان فی زمنہم الرذی الغالب فیہ التفا خربالدین والتقوی دون زماننا الغالب فیہ التفا خربالد نیا فافهم“

صنعت و حرفت میں کفاءت کے سلسلہ میں یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں عرف کو خاص اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ ہر چند کہ حائک کو عطار کا کفونیں مانا گیا ہے پھر بھی شامی نے لکھا ہے کہ سکندریہ میں چونکہ حائک کا پیشہ بہتر سمجھا جاتا ہے اس لئے وہاں حائک عطار کا کفوہ ہو سکتا ہے۔ ”وعلى هذا ينبغي أن يكون العائن كفوأ للعطار بالاسكندرية لما هناك من أحسن اعتبارها وعدم عدها نقصاً أبداً“۔^۳ اسی طرح اگر کسی علاقہ یا زمانہ میں کوئی پیشہ شرم و عار کی بات نہ رہی ہو تو پھر وہ کسی بھی اعلیٰ پیشہ کے لوگوں کے لئے کفوہ ہو جائے گا۔

اسی طرح یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اگر کوئی خاندان ایک ذریعہ معاش رکھتا ہو پھر اس نے ذریعہ معاش بدل لیا ہو مثلاً کوئی حائک ہو، بعد میں تاجر ہو گیا تو اب وہ تاجروں کا کفوہ متصور ہو گا۔ ”فلو كان دباغاً أو لاثراً صار تاجراً ثم تزوج بنت تاجر أصلی ينبغي أن يكون كفوأ“،^۴ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گوکر انسان کے لئے کسی پیشہ کا چھوڑنا ممکن ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پیشہ کی وجہ سے جو ”عار“ گئی رہتی ہے وہ اس سے نجات نہیں پاسکتا، ایسی صورت میں اس کو دوسرے اعلیٰ پیشہ کے لوگوں کا کفونیں ہونا چاہیے۔ شامی نے اسی لئے لکھا ہے کہ اگر اس کو سابقہ پیشہ چھوڑے ہوئے اتنا عرصہ گذر جائے کہ وہ نیامنیا ہو جائے اور لوگوں کے ذہن میں اس کی تحیر باتی نہ رہے تو اب اس کے ساتھ پیشہ کی دناءت کا لحاظ نہ کیا جانا چاہیے، ”وإن تناهى أمرها تقادم زمانها كان كفوأ لكان حسناً“ تاہم یہ بات فقهاء کی ان تصریحات سے مختلف معلوم ہوتی ہے جن میں کفاءت کے مسئلہ میں ”عقد کے وقت“ کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ پہلے اور بعد کے حالات کا۔ ”والكافأة اعتبارها عند ابتداء العقد“^۵

اب ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں جو ذریعہ معاش اور صنعت و حرفت میں کفاءت کا اعتبار نہ کرنے

سلہ بحر: ۱۳۲/۳ سلہ رد المحتار: ۲۲۲/۲ سلہ در المحتار: ۲۲۲.۳۲۱/۲ سلہ البحر الرائق: ۱۳۴/۳

۵ منحة الخالق على البحر الرائق: ۱۳۴/۲ سلہ در المحتار على هامش الروض: ۲۲۲/۲

والوں اور کرنے والوں کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں:

جو لوگ اس میں کفاءت کے قائل ہیں، ان کے پاس ایک دلیل وہ حدیث ہے کہ:

”الموالی بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة رجل برجل إلا حائلك أو حجام“

ترجمہ: ”عجم سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کا اور ایک شخص دوسرے شخص کا سوائے بنکر اور پچھنہ لگانے والے کے۔“

بیہقی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اس کو کئی سندوں سے نقل کیا ہے اور ہر سند ضعیف ہے، امام شوکانی **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** نے بھی اس حدیث پر شرح وسط کے ساتھ گفتگو کی ہے، فرماتے ہیں:

”متدرک حاکم میں ابن عمر **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** سے یہ روایت منقول ہے، اس میں ایک راوی مجہول ہے جو اس کو ابن جریج سے نقل کرتا ہے، ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا: یہ بے اصل جھوٹ ہے، ”هذا كذب لا اصل له“ ایک اور جگہ اس حدیث کو ”باطل“ کہا ہے، ابن عبدالبر نے تمہید میں ایک اور طریقے سے یہ روایت نقل کی ہے، دارقطنی نے علل میں لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں، خود ابن عبدالبر کی سند میں عمران بن فضل ہیں جن کے متعلق ابن حسان کی رائے ہے کہ وہ ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے موضوع روایتیں بیان کیا کرتا تھا..... ہشام بن عبید اللہ نے اس روایت میں حجام (پچھنے لگانے والا) اور دباغ (چڑے کو دباغت دینے والا) کا بھی اضافہ کر دیا ہے..... ابن عبدالبر نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ موضوع اور منکر ہے۔“

امام ابوحنیفہ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** کا اس حدیث کے بارے میں بیان ہے کہ یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے شاذ ہے اور ایک ایسے معاملے میں جو بکثرت پیش آنے والا ہے ایسی شاذ روایات کا اعتبار نہیں۔ ”ولکن ابی حنيفة قال الحديث شاذ لا يؤخذ به فيما تعلم به البلوى“ امام احمد **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** کو بھی اس حدیث کا ضعف تسلیم ہے مگر وہ حرفت میں کفاءت کو ثابت کرنے کے لئے عرف کا سہارا لیتے ہیں۔

ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عرف میں صنعت و حرفت میں بعض کو کم تر اور بعض کو برتر سمجھا جاتا ہے، پس پیشہ کی دناءت بھی نسب کی دناءت کی طرح سمجھی جائے گی، ”لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص النسب“، اسی بات کو تغیر کے تھوڑے تغیر کے ساتھ مختلف مصنفین نے لکھا ہے، امام ابوحنیفہ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** کی طرف سے جو دلیل اہل علم نے نقل کی ہے اس میں اس دلیل کا جواب بھی موجود ہے۔

کاسانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی دلیل اس طرح نقل کی ہے:
 ”لأنها ليست بأمر لا زم واجب الوجود الاتری أنه يقدر على تركها.“^۱
 ترجمہ: ”کیونکہ یہ کوئی لازمی اور انسانی وجود کے ساتھ ہمیشہ لگی رہنے والی بات نہیں، بلکہ وہ اس کو
 ترک کرنے پر قادر ہے۔“

پس صنعت و حرفت کی دناءت ”نسب“ کی دناءت کی طرح نہیں ہے کہ نسب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں
 تبدیلی ممکن نہیں، جبکہ صنعت و حرفت میں تبدیلی عین ممکن بلکہ مشاہد ہے، لہذا صنعت و حرفت جسمانی ضعف
 و مرض کے مشابہ ہے کہ جس طرح یہ ضعف اور مرض ایک عارضی چیز ہے اور اس کا کفاءت میں اعتبار نہیں اسی
 طرح صنعت و حرفت میں بھی کفاءت کا لحاظہ کیا جانا چاہیے۔ ”لأن ذلك ليس بنقص في الدين ولا هو
 لازم فأشبه الضعف والمرض“، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت ابو ہند کے بارے میں
 مروی ہے کہ وہ حجام تھے اور آپ ﷺ نے قبیلہ بنو بیاضہ کے لوگوں کو حکم فرمایا تھا کہ وہ ان کو داماد بنائیں، جیسا
 کہ ”نسب و خاندان میں“ ”کفاءت“ کی بحث میں مذکور ہوگا۔

پس حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی رائے اس باب میں زیادہ قوی ہے اور اگر صنعت
 و حرفت میں کفاءت کو مان بھی لیا جائے تو اس میں اصل اعتبار عرف کا ہے، بلکہ کاسانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے تو
 امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے اختلاف کو بھی عرف و عادت کے اختلاف ہی کا نتیجہ قرار دیا
 ہے..... میرے خیال میں موجودہ زمانہ کے عرف میں کافی تغیر آچکا ہے، چڑے کی دباغت، جوتا سازی اور
 لوہاری وغیرہ وہ پیشے ہیں جن کو فقهاء نے تحریر و ادنیٰ قرار دیا ہے، لیکن آج ان کے لئے بڑے بڑے کارخانے قائم
 ہیں اور ان میں کثرت سے ملاز میں ہیں جو جدید ترقی یافتہ تکنیک کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں، ان اہل
 حرفت کو سماج میں تحریر و مکتسبیں سمجھا جاتا، خود کپڑے بننے کی صنعت ہی ہے، ایک زمانہ میں اس کو تحریر گردانا جاتا
 تھا، اب یہ ایک زبردست معاشی کاروبار ہے، اور اس کو معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لئے اب
 اس دیوار کو منہدم کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقهاء نے ایسے ٹیکر ماشر کو جو خیاطی کی تعلیم دیتا ہو، تاجر کا
 کفوقرار دیا ہے اور جو لوگ جوتا سازی و موزہ سازی کے ماہر ہوں اور اپنے مزدور کر کر ان سے کام لیتے ہوں ان
 کو بھی عرف کی بنا پر اعلیٰ پیشہ کا تسلیم کیا ہے، شامی لکھتے ہیں:

”الظاهر أن نحو الخطأ إذا كان استاذًا في قبل الا عمالة وله أجراء يعملون له
 يكون كفوةً البت التراز والتجربة في زماننا أمالو كان استاذ الله أجراء“

لیس فی زماننا انقص من البزازو العطار" ۱۰

ترجمہ: "ظاہر یہ ہے کہ ایسے خیاط جو استاذ ہوں، کاموں کو قبول کرتے ہوں اور ان کے مزدور ہوں جو ان کے لئے کام کرتے ہوں، وہ ہمارے زمانہ میں براز اور تاجر کا کفو ہو گا..... کیونکہ ایسا شخص ہمارے زمانہ میں کپڑا فروش اور عطار سے کم تر نہیں سمجھا جاتا ہے۔"

۸) نسب میں کفاءت

امام ابوحنیفہ، امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے نزدیک نسب میں بھی کفاءت معتبر ہے، یعنی قریشی غیر قریشی کا اور عربی عجمی کا کفو نہیں ہو سکتا۔ امام مالک، حنفیہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى میں ابو الحسن کرخی ابو بکر جاص رازی نیز سفیان ثوری، علامہ ابن حزم اور عام فقہاء نسب میں کفاءت کے قائل نہیں ہیں۔^{۱۱}

جو لوگ نسب میں کفاءت کے قائل ہیں، انہوں نے نسب کے اعتبار سے پوری دنیا کو تین درجات میں تقسیم کیا ہے، اول قریش یعنی وہ تمام عرب جن کا سلسلہ نسب نظر بن کنانہ سے ملتا ہے ان میں گوبنی ہاشم رسول اللہ ﷺ سے قرابت کی وجہ سے دوسروں سے فائق ہیں، لیکن نکاح میں وہ سب ایک درجہ کے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رَضْوَنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر کے نکاح میں دیا حالانکہ وہ عدوی تھے، اس طرح کی اور بھی نظیریں موجود ہیں، دوسرا درجہ قریش کے علاوہ تمام عربوں کا ہے وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں، بعض فقہاء جیسے صاحب ہدایہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وغیرہ نے "بنو بابلہ" کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عرب قبلی کے کفو ہیں، مگر ابن حبیم اور ابن حمام وغیرہ محققین کو اس سے اتفاق نہیں ہے تیرا طبقہ غیر عرب کا ہے، یعنی عجم جن کو فقہاء "موالی" کا نام دیتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں، ان میں مزید کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ امام احمد کا قول اس بارے میں متعارض ہے، ایک روایت یہ ہے کہ خاندان میں کفاءت کا اعتبار نہیں، دوسری یہ ہے کہ قریش میں بھی عام قریش بنو ہاشم کے کفو نہیں ہو سکتے، تیرا قول ہے کہ تمام عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور تمام عجم ایک دوسرے کے۔^{۱۲}

(الن) مشتبین کے دلائل

اصل موضوع بحث دراصل مسئلہ کی یہی شق ہے، جو لوگ کفاءت کے قائل ہیں ان کے دلائل حسب ذیل

سلہ رد المحتار: ۲/۳۲۲۔ سلہ فتح القدیر: ۲/۱۸۷، رد المحتار: ۲/۳۱۹، المحتلی: ۱۰/۲۴۔ سلہ رد المحتار: ۲/۳۹۸۔

سلہ دیکھنے: المفتی: ۷/۲۸، بحر: ۲/۱۳۱، شامی: ۲/۳۱۹۔ سلہ بداع الصنائع: ۲/۳۱۹۔ سلہ المفتی: ۷/۲۸۔

ہیں:

❶ کاسانی نے مسئلہ کفاءت میں جن امور کا اعتبار ہوگا؟ ان پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”والاصل فيه قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش بعضهم أکفاء لبعض“
تَرْجِمَةُهُ: ”اس سلسلہ میں اصل رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ قریش باہم ایک دوسرے کے کفوہ ہیں۔“

اسی روایت کو عام طور پر مشائخ احناف نے ذکر کیا ہے۔

❷ اس سلسلہ میں دوسری روایت ابن قدامہ نے نقل کی ہے:

”عن أبي إسحاق الهمданى قال: خرج سليمان وجريرو فى سفر فأقيمت الصلاوة
فقال جرير لسليمان: تقدم أنت قال سليمان: بل أنت، فإنكم معاشر العرب
لانتقدمنا عليكم فى صلوتكم ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا
بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعله فيكم.“
تَرْجِمَةُهُ: ”ابو اسحاق ہمدانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سلیمان و جریر ایک سفر میں ساتھ تھے، نماز

ادا کی گئی تو جریر نے سلیمان سے کہا کہ آپ امامت فرمائیں، سلیمان نے کہا: نہیں، آپ فرمائیں، اس
لئے کہ آپ عرب ہیں، نہ ہم نماز میں آپ سے آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی امامت کر سکتے ہیں اور نہ ہم
آپ کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے ذریعہ آپ کو ہم پر فضیلت عطا
فرمائی ہے کہ عربوں ہی میں ان کو پیدا فرمایا۔“

❸ بعض حضرات نے اس سلسلہ میں ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب بعض اہل مکہ
مقابلہ کو باہر نکلے اور مسلمانوں کو للاکارا تو ادھر سے ایک انصاری تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہم ان سے
نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابلہ کے آدمیوں کو بھیجو۔ آپ ﷺ نے حمزہ اور حضرت علی رضویؑ کے زیرائی وغیرہ کو
بھیجا، پس جب جنگ کے میدان میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا تو نکاح جیسے رشتہ میں جس میں لڑکی اپنے آپ کو
گویا سراپا مرد کے ہاتھ فروخت کر دیتی ہے، بدرجہ اولیٰ کفاءت کا اعتبار ہوگا۔

❹ ان کے علاوہ اصل استدلال یہ ہے کہ رشتہ ازدواج کا مقصد دوام اور تعلق کا ثبات، شوہر کا احترام اور اس
کے جائز احکام کی اطاعت اور مرد کے لئے عورت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر شادی میں کفاءت کا خیال نہ
رکھا جائے، عورت احساس برتری میں بتلا ہو اور اس لواس شوہر کے ماتحت رہنے میں عار محسوس ہو، تو ظاہر ہے کہ

دول کا جو قرب ہونا چاہیے وہ مفقود ہوگا اور اس طرح رشیۃ نکاح کی وہ روح باقی نہ رہ سکے گی، جو شریعت کا اصل مقصود ہے۔ عام طور پر محققین نے اسی رخ پر زیادہ زور دیا، علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

”لأن المصالح تختل عند عدم الكفاءة لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفاءة بذلك فتختل المصالح ولأن الزوجين بينهما مبا سطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحمله عادة، والتحمل من غير الكفاءة أمر صعب يشق على الطبائع السليمة فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها.“^۱

ترجمہ: ”کفاءت نہ ہو تو نکاح کی مصلحتوں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مصلحتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب عورت مرد کافراش بنے اور عورت غیر کفوکافراش بننے سے نفرت کرتی ہے اور اسے باعث عار بھیتی ہے، چنانچہ مصالح نکاح میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اس لئے کہ زوجین کے درمیان نکاح میں جن کو برداشت کئے بغیر عادۃ رشیۃ نکاح باقی اور پائیدار نہیں ہو سکتا اور غیر کفو سے اس کو گوارا کرنا ایک مشکل بات ہے جو طبائع سیمہ پر گراں گزرتا ہے، لہذا کفاءت نہ ہونے کے باعث نکاح میں پائیداری نہیں رہ سکتی، اس لئے اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔“

غرض کہ فی الجملہ کفاءت کا اعتبار تو روایات سے ثابت ہے۔ اب یہ کہ کفاءت کا کن امور میں اعتبار کیا جائے گا؟ زمانہ کے حالات، لوگوں کے طرز فکر اور معاشرتی مصالح کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس حیثیت سے جب ہم اپنے معاشرہ پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ”نسب“ کی اہمیت اور نسبی فضیلت اور کمتری کا احساس نکاح کے مقصود اور میاں بیوی کے تعلقات پر عمیق اثر رکھتا ہے۔

ابن ہمام رقمطر از ہیں۔

”إِذَا ثُبِّتَ إِعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ بِمَا قَدِمَنَا فَيُمْكَنُ ثَبُوتُ تَفْصِيلِهَا أَيْضًا بِالنَّظَرِ إِلَى عَرْفِ النَّاسِ فِيمَا يَحْقِرُونَهُ وَيَعْرَفُونَ بِهِ.“^۲

ترجمہ: ”جب میری گذشتہ باتوں سے فی الجملہ کفاءت کا اعتبار ہونا ثابت ہو گیا، تو اب اس کی تفصیلات کا ثبوت بھی ممکن ہے، اس طرح کہ لوگوں کے عرف کو دیکھا جائے کہ کون سی باتیں ان کے نزدیک باعث حقارت و ننگ ہیں۔“

۵ ابن قدامہ نے اس سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے۔

”لَا مَنْعَنْ فِرْوَاجُ ذَوَاتُ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ قَالَ قَلْتُ مَا الْأَكْفَاءُ قَالَ فِي
الْأَحْسَابِ۔“^۱

تَرْجِمَة: ”میں عالی نسب خواتین کو کفو کے سوا کسی اور سے نکاح کرنے سے روک دوں گا، میں نے
پوچھا: کفو سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: حسب (نسب) میں برابری والے۔“
یہاں مجوزین نے ”حسب“ کا ترجمہ نسب سے کیا ہے۔

❶ حضور ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كَنَانَةً مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ كَنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ
مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمَ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ۔“^۲

تَرْجِمَة: ”خدا نے بنو اسماعیل سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو هاشم کو اور بنو هاشم سے
مجھ کو منتخب کر لیا ہے۔“

❷ سرسی نے ایک استدلال پر بھی کیا ہے کہ نکاح کے ذریعہ مرد کو عورت پر ایک گونہ مالکانہ حقوق حاصل
ہو جاتے ہیں جو ایک طرح کی ذات ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا: ”النِّكَاحُ رُقٌ فَلِينِظَرٌ أَحَدٌ كُمْ
أَيْنَ يَضْعُ كَرِيمَتَه“ اسی طرح ایک شخص غیر کفو میں نکاح کر کے اپنی اولاد کو ذلیل کرتا ہے اور نفس کو ذلیل کرنا
حرام ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَذْلِلْ نَفْسَهُ“ پس اس بنا پر نکاح کے وقت نسب
میں کفاءت کا خیال کیا جائے گا۔

(ب) ایک تنقیدی جائزہ

اب ہم ان دلائل کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔

❸ علامہ کاسانی نے جو روایت نقل کی ہے وہ پوری حدیث ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔

”قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبْيَلَةٌ
بَقْبَيلَةٌ۔“^۳

تَرْجِمَة: ”قریش باہم ایک دوسرے کے کفو ہیں، قبیلہ کا ایک بطن دوسرے بطن کا اور عرب ایک
دوسرے کے کفو ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا۔“

۱۔ رواہ ابو بکر عبد العزیز بسنادہ، المعنی: ۴۸۲/۶

۲۔ المعنی: ۴۸۲/۶ اس روایت کو ابن حام و فیروز نے نقل کیا ہے، یہ حدیث بیہقی کی ہے۔ باب النسب فی الکفاء: ۱۲۴/۷

۳۔ المبسوط: ۲۳/۵

یہ روایت الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ مختلف طرق سے مروی ہے، لیکن تمام اسناد ضعیف ہیں۔
 (الا): حاکم نے حضرت عبد اللہ بن ملیکہ سے یہ روایت کی ہے مگر اس سند میں شجاع بن ولید ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ "حدثنا بعض اخواننا" (مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے روایت کیا ہے) اس طرح جن صاحب سے "شجاع" نے روایت کیا ہے وہ مجھول ہیں۔

(ب): دوسرے اس حدیث کو ابو یعلی نے نقل کیا ہے، اس روایت کے سلسلہ سند میں ایک راوی "عمران بن ابی الفضل الدیلمی" ہیں، جن کے بارے میں محدثین کی رائے ہے کہ وہ موضوعات کو بھی روایت کرتے ہیں۔ اس لئے اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا ہے۔

(ج): تیسرا دارقطنی نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے لیکن اس سند میں ایک راوی "بقیۃ بن الولید" ضعیف ہیں۔ اور محمد بن الفضل بھی متكلّم فیہ ہیں۔

(د): چوتھے اس حدیث کو ابن عدی نے "کامل" میں حضرت علی اور حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اس سند میں علی بن عروہ نامی ایک راوی ہیں جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، نیز ایک دوسرے راوی عثمان بن عبدالرحمٰن ہیں ان کے بارے میں بھی بعض محدثین کی رائے ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بھی روایت کرتے ہیں جن کی ثقاہت معلوم نہ ہو۔

(۶): پانچویں اس حدیث کو بزار نے حضرت معاذ بن جبل رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں یہ ضعف ہے کہ خالد بن سعد ان حضرت معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں جبکہ حضرت معاذ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سامع ثابت نہیں ہے۔ دوسرے اس کی سند میں "سلمان ابن ابی الجون" نامی راوی ہیں جن کی تضعیف کرتے ہوئے ابن قطان نے کہا "لَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا"۔^۱

۲ علامہ ابن قدامہ نے ابو اسحاق حمدانی سے سلیمان اور جریر کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ اگرچہ سند اصح ہے لیکن یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ یعنی حضور ﷺ کا ارشاد نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ مخفی "اثر صحابہ" ہے۔ ممکن ہے کہا جائے کہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک وغیرہ کے یہاں صحابہ کا کسی ایسے مسئلہ کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کئے بغیر بیان کرنا جس میں اپنے اجتہاد کی گنجائش نہیں، مرفوع کے درجہ میں ہے۔ اس لئے سند امرفوع نہ ہونے کی گفتگو کا یہ تکڑا "إِنَّ اللَّهَ فَضَلَّكُمْ عَلَيْنَا" اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت سلیمان رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا قیاس تھا اور حضور ﷺ سے فرط عقیدت کا تقاضہ تھا اور کم از کم یہ جملہ اس کا اختال پیدا کرنے کے لئے تو کافی ہے ہی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کی نسبت خود آنحضرت ﷺ کی طرف

فرمائی، مگر یہ روایت ضعیف ہے بلکہ خود حضرت سلیمان کے عمل سے اس کی نفی ہوتی ہے، ابھی آگے ذکر ہوگا کہ خود حضرت سلیمان نے حضرت ابو بکر اور عمر دونوں کی صاحبزادیوں سے نکاح کا پیام دیا۔

۲) معرکہ بدر کے واقعہ سے جو استدلال کیا گیا وہ کتنا کمزور ہے، ظاہر ہے۔ اگر غزوہ بدر میں ایک انصاری کو ہٹانے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہما کو میدان مقابلہ میں نکلنے کا حکم دینے کو ان کے نسبی شرف کی دلیل بنائی جاسکتی ہے۔ تو کیا اسامہ بن زید رضوی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایسے قافلہ کا سپہ سالار بنانا جس میں اجلہ صحابہ شریک تھے اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ”کفاءت فی النسب“ کوئی چیز نہیں ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا اس لئے کیا ہو کہ ان حضرات کو زیادہ قوی اور حریف کے مقابلہ کے لئے زیادہ موزوں سمجھا ہو۔ یا یہ واضح کرنا مقصود ہو کہ تمہاری ساری قرابت کے باوجود حق اور سچائی کے معاملہ میں یہ ”تنغ“ برہنہ ہیں اور تمہارے ساتھ کسی مذاہمت کو تیار نہیں ہیں۔ یا اس لئے کہ ان کو شرم محسوس ہو کہ یہی نہتے اور مجبور جنہیں تم نے آوارہ طعن کر دیا تھا آج ان کی تکویریں تمہارے سرکاث رہی ہیں۔

۳) جہاں تک معاشرتی اور اذدواجی مصالح کی بات ہے تو اس سلسلہ میں دو اصول بنیادی طور پر یہ پیش نظر رہنے چاہئیں۔ اول یہ کہ شریعت میں وہی مصالح قابل قبول ہیں جو نصوص اور دین کی مجموعی اساس اور مزاج کے خلاف نہ ہوں، محض طبیعت کا کسی مصلحت کو قبول کرنا اور کسی بات سے نفور کرنا کافی نہیں۔ امام ابو اسحاق شاطبی کے الفاظ میں:

”المراد بالصالح والمفاسد ما كانت كذلك في نظر الشرع لاما كان ملائماً أو منافياً للطبع.“^۱

ترجمہ: ”مصالح و مفاسد سے وہ مصالح و مفاسد مراد ہیں جو شریعت کی نظر میں معتر ہوں، نہ یہ کہ جو طبیعت کے موافق یا ناموافق ہوں۔“

دوسرے اگر ایک مصلحت کی رعایت سے دوسری بڑی مصلحت فوت ہوتی ہو یا مفسدہ پیدا ہوتا ہو تو اسی مصلحت کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اسی کوفقہاء ”اہون البلعین“ کے اختیار کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب غور کیا جائے تو ایک طرف بنیادی طور پر کفاءت اسلام کے تصور مساوات اور اخوتِ اسلامی کے خلاف محسوس ہوتا ہے گویا یہ مصلحت دین کے مجموعی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف خاندانی اور فرقہ وارانہ عصیت اور گروہ بندی بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو میرے خیال میں اس مصلحت سے زیادہ مفسدہ ہے۔ ان حالات میں غور کیا جانا چاہیے کہ کیا یہ معاشرتی مصلحت (جو مساجع کے خود ساختہ تصور کا نتیجہ ہے) قابل رعایت ہے؟

۱) السنن الکبریٰ للبیهقی: ۷/۱۳۷ باب اعتبار النسب فی الکفاءة شیوه المواقفات: ۱/

۵) حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے متذکرہ بالاقول کے سلسلہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ "حسب" کا معنی "نسب" سے کرنا خود محل نظر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا "الحسب المال" ایک دوسرے موقع پر فرمایا۔ "إن أحساب الناس بينهم في هذا الدنيا هذا المال" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب سے مراد خاندان نہیں ہے۔

۶) وہ روایت جس میں رسول اللہ ﷺ کے احاطاء اور انتخاب کا ذکر ہے، اس کا تعلق آپ کی فضیلت اور عظمت سے ہے نہ کفاءت سے، کیونکہ اگر اس روایت کو کفاءت سے متعلق رکھا جائے تو اس کا تقاضہ ہو گا کہ قریش کے دوسرے قبائل بنو هاشم کے کفونہ ہوں حالانکہ جمہور فقهاء اس کے قاتل نہیں اور روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی صحیح ہے۔

۷) یہ کہنا کہ غیر کفوئیں نکاح کرنا اپنے نفس کو اور اپنی اولاد کو ذلیل کرنا ہے اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب یہ مان لیا جائے کہ کسی خاص خاندان میں پیدا ہونا ذلت کی بات ہے اور یہ مان لیا جائے کہ اسلام اس بات کا قاتل ہے کہ انسانوں کے بعض طبقات مکتر اور ذلیل ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات تمام تر اس کے خلاف ہیں۔ اب ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں جو خاندان و نسب میں کفاءت کے معتبر نہ ہونے کو بتاتے ہیں:

(ج) مانعین کے دلائل

۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اسلام کا "مجموعی مزاج" ہے اسلامی تمدن کی پوری عمارت جس "ایند" پر اٹھائی گئی ہے وہ "مساویات و برابری" ہے اسلام نے جس مساوات کا تصور پیش کیا ہے وہ بہت وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ وہ جس طرح وطن پرستی، قومیت پرستی، اسلامی اور طبقاتی عصیت سے بالاتر ہے، اسی طرح نسب پرستی اور آباء و اجداد پرستی کا بھی مخالف ہے..... اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ خاندانوں اور قبیلوں کا وجود اس لئے ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان اونچ نیچ کی دیوار کھڑی کروئی جائے اور پیدائشی طور پر ایک کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھا جائے۔ یہ تقسیم فاخر کے لئے نہیں "تعارف" کے لئے ہے۔

"وَجَعَلْنَا كُمْ شَعُوبًا وَّ قَبَائلَ لِتَعَارِفُوا." سورة البقرة، آیہ ۲۹

ترجمہ: "ہم نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے کہ باہم ایک دوسرے کو پچانو۔"

آباء پرستی اور آباء و اجداد کا نام لے کر فخر کرنے کو اسلام نے جاہلیت اور عصیت قرار دیا ہے۔ اسلام کو

سلہ المغنى: ۲۹/۷ نیز ملاحظہ ہو: نبیل الاوطار: ۱۲۹/۶، ترمذی نے اس روایت کو حضرت بریہ سے مرفوعاً ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ان

احساب اهل الدنيا الذی يذهبون اليه المال.

سلہ العجرات: ۱/۱

انسانیت کی اس کے سوا اور کوئی تقسیم گوارا نہیں ہے کہ یا تو وہ "مؤمن تقیٰ" ہے یا "فاجر شقیٰ"۔

"إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بُنُوءُ آدَمَ وَآدَمُ خَلْقُ مِنْ تَرَابٍ۔" سُلَيْمان بن عاصم ترجمہ کرد: "اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے امتیاز اور آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے، انسان یا تو مؤمن تقیٰ ہے یا فاجر شقیٰ، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم کی تخلیق مشی سے ہوئی ہے۔"

(۹) قرآنی شواہد

قرآن میں کہیں کفاءت کا اعتبار کئے جانے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے جبکہ متعدد آیتیں موجود ہیں جو خاندان وغیرہ میں کفاءت کے تصور کو رد کرتی ہیں۔

ابن حزم نے اس مسئلہ پر جن آیات سے استدلال کیا ہے وہ اس طرح ہیں:

❶ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ﴾

ترجمہ کرد: "تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔"

❷ ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ بَعْضٍ﴾

یہاں بھی تمام مؤمن مرد و عورت کو نسب کی تفرق کئے بغیر ایک دوسرے کا ولی قرار دیا گیا ہے۔

❸ ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَةٍ وَرَبَاعٍ﴾

ترجمہ کرد: "دو دو تین تین اور چار چار نکاح اپنی پسند کے کر سکتے ہو۔"

اس آیت میں بھی تعداد زدواج کی اجازت دیتے ہوئے "ما طاب لكم" کا فقرہ استعمال کیا گیا ہے، "ما" عام ہے اور اس کا عموم تمام مؤمن عورتوں کو شامل ہے چاہے وہ کسی خاندان کی ہوں اور کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں۔

❹ جن عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے ان کے مفصل تذکرہ کے بعد فرمایا گیا۔

﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾

ترجمہ کرد: "ان کے سوا تمام عورتوں تھمارے لئے حلال کی گئی ہیں۔"

یہاں بھی "ما وراء ذلكم" عام ہے۔

۵ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْفَكُمْ﴾

تَرْجِمَة: ”بے شک خدا کے نزدیک تم میں سب سے شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔“

چنانچہ مردی ہے کہ نبی ﷺ نے بنو بیاض کو حکم دیا کہ اپنی خاتون کا نکاح ابو هند سے کریں۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا ہم اپنی بیٹیاں اپنے غلاموں سے بیاہ دیں، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَا كُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارِفُوا إِنَّا كَرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْفَكُمْ﴾

تَرْجِمَة: ”لوگو! ہم نے تم کو ایک نرم مادہ سے پیدا کیا ہے، اور خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو۔“

یہ روایت صاف بتاتی ہے کہ اس آیت کا نزول ہی اس کفاءت کے تصور کو رد کرنے کے لئے ہوا ہے۔
یہی بات قرطبی نے ابو داؤد کے حوالہ سے نقل کی ہے۔

(س) اسوہ رسول ﷺ

پہلے گذر چکا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب ایسا رشتہ آجائے کہ تم اس کے اخلاق و دین سے مطمئن ہو تو اس کو قبول کرو، ایسا نہ کرو گے تو فتنہ پیدا ہوگا، طبی نے لکھا ہے کہ کفاءت کا اعتبار صرف دین و اخلاق میں ہوگا۔ ”لَا يَرْاعِي فِي الْكَفَاءَةِ إِلَّا الدِّينُ وَحْدَهُ۔“

آنحضرور ﷺ کے ذاتی عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مثلاً:

۱ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضویؑ کی شادی جو آپ کے غلام تھے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے فرمائی۔ حالانکہ حضرت زینب کے اہل خانہ کو اس سے تکدر بھی ہوا اور خود حضرت زینب ہنگوہ سخ ہوئیں کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے غلام سے کرنا چاہتے ہیں ”تتزوج ابنة عمتك مولاك“

۲ انہیں حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اہمہ کی شادی خود آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فرمائی۔ اور نہ چاہئے کے باوجود آپ کے حکم کی تغییر کرتے ہوئے حضرت فاطمہ بنت قیس نے اس رشتہ

کو منظور کر لیا۔

”وَأَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ بْنَتُ قَيْسٍ أَنْ تَنكِحْ أَسَامِةَ بْنَ زَيْدَ
مَوْلَاهُ فَنَكِحَهَا بِأَمْرِهِ۔“^۱

ترجمہ: ”آپ نے فاطمہ بنت قیس کو حکم دیا کہ آپ کے مولا اسامہ بن زید سے نکاح کریں، چنانچہ
حضرت اسامہ نے آپ کے حسب حکم فاطمہ سے نکاح کیا۔“

۲ حضرت مقداد بن اسود کا نکاح جو بیوی زہرہ سے تھے، آپ نے حضرت ضباء بنت زیر بن عبدالمطلب سے
فرمایا، اور کہا کہ مقداد و زید کا نکاح ہم نے اس طرح اس لئے کیا ہے کہ اخلاق شرافت کا معیار بن جائے۔
”لَيَكُونَ أَشْرَفَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ خَلْقًا“..... بعض روایات میں زید بن حارثہ اور حضرت زینب
کے نکاح کا واقعہ مذکور ہے۔

۳ حضرت بلاں رضوی علیہ السلام نے ایک انصاریہ کے یہاں اپنے نکاح کا پیغام دیا، جسے انصار نے حضرت
بلاں کے پہلے غلام ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا، آپ نے اس موقع پر ان صاحب کو حضرت بلاں رضوی علیہ السلام
سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

”فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِهِمْ دَانِ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَا مُرَكِّمُوا إِنْ تَزُوْجُوهُنِّي.“

ترجمہ: ”حضور نے ان سے فرمایا کہ ہمدان سے کہو کہ رسول اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم (اپنی
لڑکی) ہم سے بیا ہو۔“

بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے انکار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی برہمی اور
خنگی کا اظہار فرمایا۔

آخر الذکر دونوں مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”امر“ فرمایا ہے۔ اگر نسب میں کفاءت کا اعتبار ہوتا تو کم از
کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر تو نہیں فرماتے، زیادہ سے زیادہ مشورہ دیتے۔

۴ ابو طیبہ نے بنی بیاضہ کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، بنو بیاضہ نے نسب کے اعتبار سے ان کو کم ترجانے
ہوئے پیغام مسدود کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:
”أَنْكُحُوا أَبْنَاءَ طِبِّيهِ، إِنْ لَا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ“^۲

۱۔ متفق علیہ، سبل السلام: ۱۰۸/۳، مصنف عبدالرؤوف: ۱۵۲/۶، میہفی: ۷/۱۳۷۔

۲۔ میہفی: ۷/۲، بداع الصنائع: ۲۱۷، حکام القرآن: ۲۴۷/۱۶۔

ترجمہ: ”ابو طیبہ سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔“
یہاں بھی آپ نے ”امر“ کا صیغہ استعمال کیا ہے جو عام حالات میں وجوہ کے لئے آتا ہے۔

❶ ابو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ کو پچھا لگایا، آپ ﷺ نے بنو بیاض سے جو عرب میں ایک معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا، مخاطب ہو کر فرمایا۔

”انکھوا اباہند و انکھوا الیہ“^۱

ترجمہ: ”ابو ہند سے شادی بیاہ کا ربط رکھو۔“

امام احمد بن حبیل رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی تضعیف کی ہے۔ لیکن ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ امام احمد کی تضعیف کی وجہ یہ شرطیہ فقرہ ہے کہ ”تم اس کی شادی اپنے ہاں اور اپنی اس کے یہاں کرو۔“ اور صحیح یہ ہے کہ جملہ شرط نہیں ہے، بلکہ فی الجملہ ان کو تحریر نہ جانے اور باہم شادی بیاہ کا معاملہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

(س) آثار صحابہ

❶ حضرت ابو حذیفہ نے ایک انصاری کے غلام سالم کو ”محبٹی“ بنالیا تھا اور انہیں سے اپنی براور زادی ولید بن عتبہ کی لڑکی کی شادی کی۔

❷ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے اپنی بہن سے فرمایا تھا:

”انشدك اللہ ان تتزوجي الامسلماً وان کان احمر روميا او حبشيما۔“^۲

ترجمہ: ”میں تھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمان سے نکاح کرنا، روم کا سرخ پسید ہو یا کوئی جبٹی۔“

ظاہر ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود عربی تھے گو قریشی نہ تھے، لیکن وہ محض اسلام کو نکاح کے لئے معیار انتخاب بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔

❸ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت بلاں جبٹی کی شادی اپنی بہن سے کی۔

❹ بعض صحابہ نے اپنے اپنے نسب پر فخر کا اظہار کیا، بات حضرت سلمان فارسی تک چبھی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”أبی الاسلام لا أب لی سواه۔“^۳

ترجمہ: ”اسلام ہی میرا باپ ہے، اس کے سوا میرا کوئی باپ نہیں۔“

۱۔ مسن کبریٰ بیہقی: ۱۳۷/۷، مصنف عبدالرزاق: ۱۵۵/۶

۲۔ المعنی: ۲۶/۷

۳۔ المعنی: ۴۸۰/۶

۴۔ فتح القدیر: ۸۷/۲

حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو بکر کی صاحبزادی سے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ابو بکر نے قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے بھی پیغام دیا، پہلے حضرت عمر نے مال دیا۔ (فاتحیۃ الیہ) پھر خواہش کی کہ وہ ان کی صاحبزادی سے نکاح کر لیں تو حضرت سلمان نے قبول نہ کیا۔

❸ حضرت ابو بکر نے اپنی بہن ام فروہ کا نکاح اشعش بن قیس سے کیا جو قریشی نہ تھے۔

پس، حاصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تصریحات، صحابہ کے آثار و واقعات، دین کا مجموعی مزاج و مذاق ان لوگوں کی فکر سے زیادہ قریب ہے جو نسب میں کفاءت کے قائل نہیں ہیں، جن فقهاء نے نسب میں کفاءت کا اعتبار کیا ہے ان کے پیش نظر اصل میں عرف اور ان کے عہد کا روایج ہے، پھر بھی جیسا کہ کاسانی کی تصریح گذر چکی ہے زیادہ فقهاء نے اسے مباح قرار دیا ہے اور محض دیانت و اخلاق میں کفاءت پر اتفاق کرنے کو بہتر اور مستحب سمجھا ہے۔ اب یہ بات علماء کے لئے قابل غور ہے کہ کیا موجودہ عرف میں بھی نسب میں کفاءت کو وہی اہمیت حاصل ہونی چاہیے اور کیا اس کے مصالح کے مقابل اس کے مفاسد نظر انداز کر دیئے جانے کے لائق ہیں؟

❹ حسب میں کفاءت

مختلف کتب فقہ میں امور کفاءت کے سلسلہ میں "حسب" کا ذکر بھی ملتا ہے۔ "حسب" سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں فقهاء کی رائیں ایک گونہ مختلف ہیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حسب سے مراد نسب و خاندان ہے۔ فقهاء احتلاف کی اکثر کتابوں میں قاضی خان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ "الحسیب یکون کفواللنسیب" اس کی تائید حضرت عمر کے اس قول سے ہوتی ہے کہ "لَا مَنْعِنْ فِرْوَجُ ذُوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ الْاكْفَاءِ" ابن قدامہ لکھتے ہیں۔ یعنی "بالنسب الحسب وهو النسب" بعض حضرات کا خیال ہے کہ حسب سے مراد مال ہے چنانچہ اس کی تائید حضرت بریدہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

"إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ." ۖ

ترجمہ: "اہل دنیا کا حسب جس کی طرف لوگ جاتے ہیں، "مال" ہے۔"

بعض حضرات کی رائے ہے کہ حسب سے مراد دین و اخلاق ہے۔ "وَيَقَالُ حَسْبَةُ دِينِهِ"..... لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حسب سے وہ وجاہت مراد ہے جو کسی خاندان یا فرد کو اس کے علم، عہدہ، حیثیت عرفی اور حکومت و اقتدار کی وجہ سے حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ چلپی کا بیان ہے:

"الْحَسْبُ مَا يَعْدُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَارِخَ آبَائِهِ قَالَ إِبْنُ السَّكِيتِ الْحَسْبُ

لِلْجَامِعِ لِاحْكَامِ الْقُرْآنِ: ۳۴۷/۱۶ لِلْمَعْنَى: ۲۸/۷ لِلْهَنْدِيَّ: ۲۹۰/۱ لِلْمُصْنَفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ۱۵۲/۶

لِلْمَعْنَى: ۲۷/۷ لِلْجَامِعِ الْفَوَانِدِ: ۲۱۸/۱ بِحَوَالَةِ تَرْمِذِيٍّ لِلْحَاشِيَّةِ عَلَى تَبْيَانِ الْحَقَائِقِ: ۱۲۹/۲

والکرم یکونان فی الرجل و إن لم يكن له أباء لهم شرف،^۱
 ترجمہ: ”وہ باقی جو غاندانی مقا خر میں شمار کی جاتی ہیں، حسب ہیں..... ابن سکیت نے کہا ہے کہ
 بعض دفعہ انسان کو آبائی شرف حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس میں ”کرم و حسب“ پایا جاتا ہے۔“

ایسا طرح محیط میں صدر الاسلام سے نقل کیا گیا ہے کہ صاحب جاہ و حشمت اور اہل عہدہ و منصب صاحب
 حسب کہلائیں گے۔ ”الحسیب الذی لہ جاہ و حشمة و منصب۔“^۲

فقہاء کے یہاں مختلف جزئیات ملتی ہیں جن میں ”حسب“ کو ”کفاءت“ کے مقابلہ میں اہمیت دی گئی ہے۔
 چنانچہ عجمی عالم کو اس کے علم کی بنا پر باشی اور عرب جاہل کا کفو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ علم کا شرف نسبی شرف سے
 بڑھ کر ہے۔ ”لَانْ شَرْفُ الْعِلْمِ فَوْقَ شَرْفِ النِّسْبَةِ“ اسی بنا پر امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نو مسلم کو اگر
 دوسری ایسی فضیلیتیں حاصل ہوں جو نسب کی کمی کو پورا کر دیں تو ایسا نو مسلم خاندانی مسلمان کا کفو ہو گا۔^۳..... اسی
 طرح امام محمد کا یہ قول کہ تمام باشی اور تمام عرب باہم کفو ہیں سوائے خانوادہ خلافت کے کہ خانوادہ خلافت کو
 بمقابلہ دوسرے خاندانوں کے برتر سمجھا جائے گا۔ دراصل حسب میں کفاءات ہی سے متعلق ہے۔ یہ جو اکثر علماء
 نے لکھا ہے کہ امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے یہ بات اہل اقتدار کے خوف سے اور تکمیل فتنہ کی غرض سے کہی ہے
 امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی شان سے فروز معلوم ہوتی ہے اسی طرح امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ ”ذی
 وجہت فاسق“ صالحین کا کفو ہو سکتا ہے۔ اور شارحین کی یہ وضاحت کہ اس سے مقربین سلطان مراد ہیں۔^۴

وہ بھی حسب ہی میں کفاءت کے قبیل سے ہے، امام محمد کی رائے گذر چکی ہے کہ ان کے یہاں دین میں
 کفاءت کا اعتبار نہیں، اس کے باوجود ایسا شخص کہ جس کی نشر خواری اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہو کہ لوگ اس سے
 استہزا اور تمثیر کرتے ہوں شرافاء کا کفو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسے بھی حسب میں کفاءت کی رعایت قرار دی جا سکتی
 ہے۔ اس لئے کہ بہت سی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ حسب مکارم اخلاق کا نام ہے۔ ”الحسب
 مکارم الاخلاق“، شامی نے خوب لکھا ہے کہ اگر علم و حسب کا شرف نسب و خاندان کے شرف سے بڑھ کرنے
 ہو تو کیا امام ابو حنیفہ اور حسن بصری جیسے غیر عربی کسی جاہل قریشی یا اپنے پاؤں پر پیشاب کرنے والے عربی کے کفو
 نہیں ہو سکتے۔^۵

یہ حقیقت ہے کہ کسی خاندان کو اس کی علمی خدمات یا اپنی حیثیت عرفی کی وجہ سے ایسا مقام حاصل ہو جاتا

۱۔ لہ پلہی علی التبیین: ۱۲۹/۲ ۲۔ البحر الرائق: ۱۳۰/۳ ۳۔ فتح القدیر: ۱۹۰/۲ ۴۔ البحر الرائق: ۱۳۰/۳

۵۔ هدایہ: ۲۲۰/۲ فصل فی الكفاءة۔ ۶۔ عنایہ علی الہدایہ علی هامش الفتح: ۱۹۱/۳

۷۔ فتح القدیر: ۱۹۰/۳، بحر: ۱۳۰/۳ ۸۔ وکیف یصح لا حدان یقول ان مثل ابی حنیفہ او الحسن البصری
 وغیرهما من ليس بعربي انه، لا یكون کفؤاً لبنت فرثی جاهل او لبنت عربی بوال علی عقبیہ رد المحتار: ۲۲۳/۲

ہے کہ اگر اس خاندان کا رشتہ علم و جاہ کے اعتبار سے اس سے بہت پست سطح کے لوگوں سے ہو جائے یا ایسے خاندان میں ہو جائے جہاں خاصی ناخواندگی ہو تو ان دونوں خاندانوں کی رہائش، رہن سہن اور معاشرت میں اتنا نمایاں اور واضح فرق ہو جاتا ہے کہ ان میں نکاح بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ لہذا معاشرتی مصالح کو سامنے رکھتے ہوئے حسب میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن بریدہ کی جس روایت میں حسب "مال" کو قرار دیا گیا ہے، عجیب نہیں کہ اس امر کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ چونکہ مالی اور معاشری حالت کی وجہ سے بھی کسی خاندان کو ایک گونہ وجاہت حاصل ہو جاتی ہے اسی لئے شاید آپ ﷺ نے مال کو حسب میں اہمیت دی ہو۔

کفاءت کے چند اہم مسائل

❶ کفاءت کا اعتبار نکاح کے وقت ہی ہوتا ہے، چنانچہ اگر نکاح کے وقت شوہربیوی کا کفوتها اور بعد میں وہ اس کا کفو باقی نہ رہا تو اب عورت یا اس کا ولی تفریق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، مثلاً نکاح کے وقت مرد معاشری اعتبار سے عورت کا کفوتها لیکن بعد میں اس کی اقتصادی حالت پست ہو گئی اور وہ اس عورت کا کفو باقی نہ رہا تو عورت کو مطالبة تفریق کا حق حاصل نہ ہوگا۔ "تعتبر الكفاءة عند ابتداء العقد وزوالها بعد ذلك لا يضر" ۱

❷ کفاءت کا اعتبار عورت کی طرف سے ہے نہ کہ مرد کی طرف سے، یعنی مرد کو عورت کا کفو ہونا چاہیے، اگر عورت مرد کی کفونہ ہوئی تو کوئی مضائقہ نہیں، گو بعض فقهاء کے یہاں اس سے مختلف صراحتیں ملتی ہیں لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ کفاءت صرف عورت ہی کی طرف سے معتبر ہے۔ ۲

❸ کفاءت بیوی و راس کے اولیاء دونوں کا حق ہے چنانچہ:

(الو) اگر عورت نے غیر کفو میں اپنا نکاح کر لیا اور اولیاء اس سے واقف نہیں تھے تو وہی کو حق حاصل ہو گا کہ قاضی کے یہاں مطالبة کر کے اس عورت کا نکاح فسخ کرادے گویا نکاح تو ہو جائے گا لیکن موقوف رہے گا۔ اگر ولی نے اس پر اعتراض نہ کیا تو نکاح باقی رہے گا اور اگر اس نے اس نکاح کے خلاف استغاثہ کیا تو اب قاضی زوجین کے درمیان تفریق کر دے گا۔

فقہاء احناف کی کتابوں میں ظاہر روایات کی حیثیت سے یہی بات مشہور ہے، حسن بن زیاد نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے کہ لڑکی کا غیر کفو میں کیا ہوا نکاح نافذ ہی نہ ہوگا۔ عام طور پر متاخرین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے موجودہ زمانہ میں اس رائے پر فتویٰ دینے میں بڑی دقتیں پیدا ہو جائیں گی اور شہروں کے سماج

سلہ البحر الرائق: ۳/۱۳۰، رد المحتار: ۲/۳۱۷۔ سلہ در مختار: ۲/۳۱۷۔ سلہ حوالہ سابق

سلہ الفقه علی المذاہب الاربعہ: ۴/۵۶، بدائع الصنائع: ۲/۳۱۸۔

میں ہونے والے بہت سے ایسے نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتے ہیں اور اپنی ناراضگی کے باوجود انجام کارولی اس پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے حرام قرار پائے گا۔ اس لئے موجودہ حالات میں ظاہر روایت والا قول ہی زیادہ صحیح اور قابل عمل ہے۔

(۱) اگر کفو میں قریب ترین ولی کی اجازت سے نکاح کرے تو خود اس ولی یا اس کے بعد دوسرے درجہ کے اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق باقی نہ رہے گا اور نکاح لازم ہو جائے گا۔

(۲) ولی نے بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے کیا اور لڑکے سے کفاءت کی شرط لگادی یا اس وقت کیا جبکہ لڑکے نے کفو ہونے کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مرد اس کا کفو نہیں تھا تو خود عورت اور اس کا ولی دونوں کو قاضی کے یہاں اس نکاح کے فسخ کرنے کے لئے استغاثہ کا حق حاصل ہو گا۔

(۳) نابالغہ لڑکی کا نکاح باپ یا دادا کرے تو چاہے غیر کفو میں یہ نکاح کیا گیا ہو پھر بھی یہ نکاح لازم ہو جائے گا۔ البتہ ایسا باپ اور دادا جو بے غیرت فاسق ہو یا اپنے اختیارات کے غلط استعمال اور ناجربہ کاری میں معروف ہو اس کا کیا ہوا نکاح باطل ہو گا۔

(۴) باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے نابالغہ کا نکاح غیر کفو سے کر دیا تو یہ نکاح ہی نہ ہو گا۔ اسی طرح باپ اور دادا نے نشہ کی حالت میں نابالغہ کا نکاح غیر کفو سے کر دیا تو یہ نکاح بھی منعقد نہ ہو گا۔

۷ فقهاء کے یہاں مسئلہ کفاءت میں ناواقفیت کا اختبار نہیں ہے۔ یعنی مرد نے خود کو کفو ظاہرنہ کیا عورت کی طرف سے کفو ہونے کی شرط لگائی گئی، لیکن لڑکی اور اس کے ولی نے کفو سمجھ کر نکاح کر دیا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ کفو نہیں تھا تو اب کفاءت نہ پائے جانے کی وجہ سے مطالبة تفریق کا حق باقی نہ رہے گا۔

۸ اگر لڑکی غیر کفو میں اپنا نکاح کر رہی ہو اور ولی اس پر خاموشی اختیار کرے تو یہ اس کی رضامندی نہیں ہو گی بلکہ اس عورت کے اپنے اس شوہر سے ماں بننے تک عورت کو تفریق کا مطالبه کرنے کا حق حاصل رہے گا۔..... تاہم اس جزئیہ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ اس سے بعض اوقات بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے۔

یہ چند سطریں ایک کوتاه علم اور کم سواد نے صرف اس لئے لکھی ہیں کہ اس اہم معاشرتی مسئلہ کی طرف علماء و ارباب افتاء توجہ کریں کہ کیا بدلتے ہوئے حالات اور تغیر پذیر قدروں کو سامنے رکھ کر اس پر نظر ثانی کی گنجائش ہے؟

سلہ الفتاوی الہندیہ: ۲۹۳/۱، سلہ الفتاوی الہندیہ: ۲۸۵/۱، سلہ الفتاوی الہندیہ: ۲۹۴/۱، سلہ البحر الرائق: ۱۳۴/۳

سلہ در المختار: ۲۱۸/۲، سلہ الجوهرۃ التیرۃ ص: ۲۶، البحر الرائق

نوٹ: کفاءت نہ پائے جانے کی وجہ سے زوجین میں کب تفریق کی جاتی ہے اور اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کو وضاحت کے ساتھ بھجنے کے لئے مولانا عبدالصمد رحمانی کی "کتاب الفسخ والتفریق" ص: ۹۱، تاص: ۸۶ بہت عمدہ اور قابل مطالعہ ہے۔

خیارِ بلوغ کا حق اور اس کا استعمال

نابالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے اس پر امت کا اجماع ہے پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ان کا نکاح ان کے اولیاء ہی کریں گے اس لئے کہ شریعت کے نظر میں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، معاملات کے باب میں ان کے اختیارات مسلوب ہوتے ہیں۔ البتہ کن اولیاء کو نابالغ بچوں کا نکاح کرنے کا حق حاصل ہے؟ اس میں فقهاء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک اور مشہور روایت کے مطابق امام احمد کا خیال ہے کہ صرف باپ کو ہی یہ حق حاصل ہے، ان کے علاوہ کوئی نابالغ بچہ کا نکاح نہیں کر سکتا امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے باپ کے ساتھ دادا کا بھی اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں کو حق ہے کہ وہ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کی رضامندی کے علی الرغم بھی ان کا نکاح اپنی صوابدیدی سے کر سکتے ہیں۔ البتہ چونکہ امام شافعی اور امام احمد کے ہاں فاسق کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے اگر باپ دادا فاسق ہوں تو وہ نابالغ کا نکاح کرنے کے مجاز نہیں رہیں گے۔

فقہاء کی رائیں

احناف کے ہاں تمام اولیاء باپ، دادا، چچا، بھائی وغیرہ جبراً نابالغ کا نکاح کر سکتے ہیں اور ان کو نابالغ پر ”ولایت اجبار“ حاصل ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے یہاں باپ دادا کے علاوہ دوسرا کوئی رشتہ دار نکاح کرے یا باپ دادا ہی کرے لیکن تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط اور ناروا استعمال کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار ہے، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے ورنہ فتح کر دے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں ”خیارِ بلوغ“ کہا جاتا ہے اور اگر باپ دادا نے نکاح کیا اور پہلے سے اپنے اختیارات کے غلط استعمال میں مشہور نہیں ہیں تو اب ”خیارِ بلوغ“ حاصل نہ ہو گا۔ مگر امام ابو یوسف کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ان کے ہاں کوئی بھی ”ولی“ نکاح کرے اس کا نکاح لازم ہو گیا اب بالغ ہونے کے بعد اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں رہے گا۔

احناف کے دلائل

روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس مسئلہ میں بعض امور کو مستثنی کر کے احناف کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نابالغ بچوں کا نکاح والدین کے علاوہ دوسرے اولیاء نے کیا ہے اور اس بنا پر بالغ ہونے کے بعد ان کو نکاح باقی رکھنے یاروک دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔

❶ رسول اللہ ﷺ نے خود حضرت امامہ بنت حمزہ کا نابالغی کے عہد میں نکاح کیا اور بالغ ہونے کے بعد آپ نے ان کے لئے خیار کی گنجائش رکھی۔

”وَجَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا بَلَغَتْ“^۱

❷ یتیم بچوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ اگر نابالغی میں ان کا نکاح کر دیا جائے تو ان کو خیار حاصل ہوگا۔ ”اذا زوجاهما وهماصغیران انهمابالخيار۔“^۲

احناف زیادہ تر اس مسئلہ پر قیاس پیش کرتے ہیں کہ چونکہ باپ وادا بچوں کا پوری طرح ہمدرد (وافر الشفقت) ہوتا ہے اس لئے اس کا کیا ہوا نکاح تولازم ہو جائے گا۔ دوسرے اولیاء میں چونکہ شفقت اس درجہ نہیں رہتی۔ اس لئے ان کا کیا ہوا نکاح درست تو ہو جائے گا، مگر لازم نہ ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوگا چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے یار کر دے۔

لیکن جیسا کہ واضح ہے اوپر جو روایت اور اثر ذکر کی گئی ہیں ان سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اگر نابالغی کی حالت میں نکاح کر دیا جائے تو بالغ ہونے کے بعد ”خیار بلوغ“ حاصل ہوگا۔ احناف کے یہاں باپ اور دوسرے اولیاء کے درمیان جو فرق کیا گیا ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ سوائے اس کے کہ باپ اور دادا کی شفقت کے تحت ان سے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے بچے کے حق میں اچھے رشتہ ہی کا انتخاب کیا ہوگا، دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں اس قدر حسن ظن رکھنا مشکل بھی ہے اور تجربہ کے خلاف بھی۔

قاضی شریح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى

مگر ابن ابی شیبہ نے اس سلسلہ میں ایک تیسرا رائے بھی پیش کی ہے جو قاضی شریح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى کی ہے جن کو عہد فاروقی سے لے کر حضرت علیؓ کے عہد تک اجلہ صحابہؓ کے عہد میں منصب قضا پر فائز رہنے کی سعادت حاصل رہی ہے اور صرف یہی بات ان کے تفہقہ، دین کی مزاج شناسی اور کتاب و سنت کی روح پر ان کی کگھری نظر کے لئے شاہد عدل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ خود ہی اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر دے تو بھی جوان

۱- فقه السنۃ للشيخ سابق: ۱۳۰/۲ "زواج الصغیرة" ۲- الہدایہ: ۲۹۶/۲ مصنف: ۱۴۱/۴

ہونے کے بعد ان کو اختیار حاصل ہوگا، چاہے تو اس کو باقی رکھے یا رد کر دے۔ "إذا زوج الرجل ابنة فالخيار لهم إذا شباباً" غالباً یہی رائے طاؤس کی بھی ہے انہوں نے مطلقاً باپ دادا کی قید لگائے بغیر نابالغوں کو خیار بلوغ کا حق دیا ہے۔ "فلا في الصغيرين هما بال الخيار اذا شباً" اور بعض قرآن ہیں جو اس رائے کی تائید میں جاتے ہیں:

اول یہ کہ حضور ﷺ نے حضرت حمزہ کی صاحبزادی کے بعد بلوغ "خیار بلوغ" کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد نہیں فرمایا "چونکہ اس کے باپ یا دادا نے یہ نکاح نہیں کیا ہے بلکہ میں نے کیا ہے اس لئے خیار بلوغ حاصل ہوگا" بلکہ مطلق یہ بات فرمائی کہ اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں اور بچیوں کو مطلقاً خیار حاصل ہوگا۔ چاہے نکاح خود اس کے باپ اور دادا کریں یا کوئی اور۔

دوسرے جب نابالغ اولاد پر باپ جنمیں کر سکتا۔ تو اولاد کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان کو اس رشتہ میں اختیار حاصل ہونا چاہیے جو جبراً اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ تاکہ اس رشتہ میں ان کی رضا شامل ہو جائے۔

احتلاف کی دلیل پر ایک ناقدانہ نظر

احتلاف کا یہ قیاس کہ باپ اور دادا و فرشقۃ ہوتے ہیں اس لئے ان کا نکاح لازم ہو جائے گا محل نظر ہے: ایک تو اس لئے کہ اگر نکاح میں حق انتخاب کے حاصل ہونے اور نہ ہونے کے لئے یہی معیار ہوتا تو پھر بالغ بچوں پر بھی باپ دادا کو ایسی ہی ولایت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دوسرے عین ممکن ہے کہ ایک نابالغ بچہ کا رشتہ باپ اور دادا نے دوسری نابالغ بچی سے موجودہ حالات کی بناء پر کر دیا ہو۔ مگر بعد کو ماحدوں کے بگاڑ اور تربیت کے فساد کے نتیجے میں اس میں صلاح باقی نہ رہے۔ نابالغی کے نکاح میں اس طرح باقتوں کا پیش آ جانا کوئی شاذ و نادر واقعہ نہیں ہے، بلکہ کثرت سے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اب کیا یہ شفقت اور ہمدردی ہو گی کہ پھر بھی اس لڑکے کو اسی لڑکی کے ساتھ بندھ کر رہے پر مجبور کیا جائے؟

پھر ایک اتنا بڑا مسئلہ جس سے زندگیوں اور قسمتوں کے فیصلے وابستہ ہیں۔ میں نہ کتاب و سنت کی کوئی نص ہے نہ صحابہ کے آثار ہیں اور نہ کوئی مضبوط قیاس ہے جس کی بنیاد کسی منصوص شرعی نظیر پر ہو، دوسری طرف قاضی شریع کا قول موجود ہے جس کو عہد صحابہ کی عدالتی نظیر کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ حدیث کا اطلاق ہے جو ہر نابالغ کے حق میں "خیار بلوغ" کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد "باپ دادا" کے اختیارات کا سلب کر لیا جانا اور خود اس کی رضامندی اور آمادگی کا ضروری ہونا ایک مسلمہ اصول ہے جو مطلقاً "خیار بلوغ" کا تقاضہ

کرتا ہے۔ ان امور کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں قاضی شریعہ کی رائے زیادہ قوی بھی ہے اور قرین مصلحت بھی۔

بعض فقهاء احتجاف نے اس مسئلہ پر منصوص نظر بھی پیش کرنی چاہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ سے نابالغی میں نکاح کیا تھا اور نکاح کے ولی خود حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر تھے، اگر بالغ ہونے کے بعد "خیار بلوغ" حاصل ہوتا تو حضرت عائشہ سے پیش کش فرماتے کہ اگر چاہو تو اس نکاح کو رکھو ورنہ رد کرو، جیسا کہ نفقہ کی شنگل اور ازواج مطہرات کے مطالبہ کے وقت آپ نے تمام ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو وہ آپ ﷺ کے نکاح میں رہیں اور چاہیں تو علیحدہ ہو جائیں۔

لیکن ادنیٰ غور و تأمل سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ استدلال بے تکلف ہے۔ خیار بلوغ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ جس کا استعمال کیا ہی جائے بلکہ ایک اختیاری چیز ہے جس کا تعلق خود اس شخص سے ہے جس کو اختیار حاصل ہے اگر یہ بات ثابت ہوتی کہ حضرت عائشہ رضویۃ اللہ تعالیٰ عنہا نے خیار بلوغ کا مطالبہ کیا اور آپ نے رد کر دیا تو بجا طور پر یہ استدلال درست ہوتا۔ حدیث سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس حدیث سے اگر کوئی بات ثابت کی جاسکتی ہے تو وہ یہ کہ باپ اگر اپنی صوابیدید سے نابالغ بچے کا نکاح کر دے تو بالغ ہونے کے بعد باپ کی یہ ذمہ داری نہیں رہتی کہ وہ اپنی اولاد کو اختیار دے کہ اگر چاہو تو نکاح کو باقی رکھو ورنہ رد کرو بلکہ اس اختیار کو استعمال کرنا خود اس کا کام ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اس اختیار کو استعمال نہ کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو نکاح لازم ہو جائے گا۔ نیز اس کو واقعہ تحریر پر قیاس کرنا بھی غلط ہے، وہاں رسول اللہ من جانب اللہ اس بات پر مأمور تھے کہ اپنی ازواج کو اختیار دیں اور ان کی مرضی معلوم کر لیں، یہاں جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ باپ پر یہ بات واجب نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس حق پر متنبہ بھی کریں وہاں اختیار دینے کا تعلق خود رسول اللہ ﷺ کی طرف سے تھا۔ یہ ازواج مطہرات کا کوئی ذاتی حق نہ تھا اس لئے خصوصیت سے اس کا اظہار ضروری تھا اور یہاں یہ ایک مستقل اور شرعی حق ہے جس کا تعلق خود حضرت عائشہ سے تھا۔ اس لئے آپ کی طرف سے اختیار دیا جانا چند اس ضروری نہ تھا۔

حالات کا تقاضا

خود امام ابو حیفہ رحمہمآں اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول ہے کہ اگر پہلے کسی واقعہ نکاح میں ایک شخص کا اپنے اختیار کو غلط اور بے جا استعمال کرنا ثابت ہو یا نشہ کی حالت میں اس نے اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کیا ہو تو اس کا

نکاح لازم نہ ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد پھر کو خیار بلوغ حاصل رہے گا۔

”اذا زوجهم الاب اوالجد فلا خيار لهم بعد بلوغهما بشرطين ان لا يكون معروفا بسوء الاختيار قبل العقد ثانيهما ان لا يكون سكران فيقضى عليه سکرہ بتزویجها بغير مهر المثل او بفاسق او غير كفوء.“^{۱۰}

نیز اگر گناہ پر جری اور بد نام اور بے غیرت فاسق ہو، جسے فقهاء اپنی اصطلاح میں ”فاسق مجہک“ کہتے ہیں اور وہ نابالغ بچہ کا اس طرح نکاح کر دے جو بہ ظاہر خلاف مصلحت محسوس ہو مثلاً لڑکی کا مہر کم یا لڑکے کا مہر زیادہ مستعین کر دے یا غیر کفوئے نکاح کر دے یا اس طرح کوئی اور خلاف مصلحت بات پیش آجائے تو یہ نکاح جائز نہ ہوگا۔

”نعم اذا كان منهكا لا ينفذ تزويجه ايها بمنقص عن مهر المثل ومن غير كفوء
وحاصله ان الفسق وان كان لا يسلب الاهلية عندنا لكن اذا كان الاب
لا ينفذ تزويجه الا بشرط المصلحة.“^{۱۱}

ہندوستان کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ نابالغی کے نکاح کا رواج اہل علم، اہل دانش اور متمن لوگوں کے طبقہ میں شاید ایک فی ہزار بھی نہ ہوگا۔ ایسے نکاح کے واقعے زیادہ تر پسمندہ اور جاہل اور علم دین سے نا آشنا اور دیپھاتیوں کے حلقہ میں پیش آتے ہیں اور ان کی جہالت اور پسمندگی نیز بعض موقعوں پر حرص یا مجبوری اکثر اوقات ان کے اختیارات کا غلط استعمال کرتی ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ اس مسئلہ میں قاضی شرعاً رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی رائے اختیار کی جائے اور باپ وادا کے نکاح کرنے کے باوجود نابالغ کو ”خیار بلوغ“ کا مستحق قرار دیا جائے۔

خیار بلوغ کے لئے اصول اور طریق کار

اب ایک نظر ان شرائط اور طریق کا رپر بھی ذاتی کی ضرورت ہے جو ہمارے فقهاء نے ”خیار بلوغ“ کا حق استعمال کرنے کے لئے متعین کی ہیں۔ فقهاء احناف کے ہاں اس کی تفصیل اس طرح ہے:

باکرہ لڑکی کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس لمحے بالغ ہو خاموش نہ رہے اور فوراً کہہ اٹھے کہ میں اپنا نکاح رد کرتی ہوں۔ اگر اس نے خاموشی اختیار کر لی تو چاہے ابھی بالغ ہونے کی مجلس ختم بھی نہ ہوئی ہو پھر بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اس لئے کہ خیار بلوغ اختتام مجلس تک بھی باقی نہیں رہتا ہے۔

”وسکوت البکر رضاہ ها ولا یمتد خیارہا الی آخر المجلس“، بعض حضرات نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ اگر وہ مہر کی بابت دریافت کرے۔ یا شوہر کے بارے میں جس سے ابھی خلوت کی نوبت نہ آئی ہو پوچھے یا جن لوگوں کو نکاح سے اپنی ناراضگی پر گواہ بنانا چاہتی ہو ان کو پہلے سلام کر دے، تو بھی اس کا خیار ختم ہو جائے گا۔ ”و اذا بلغت وسألت عن اسم الزوج وعن المهر المسمى او سلمت على الشهود بطل خيار البلوغ كذا في المعيبط.“

لیکن ابو بکر خصاف نے لکھا ہے کہ مجلس ختم ہونے تک باکرہ کا اختیار باقی رہے گا اور حکمنے نے لکھا ہے کہ مہر یا شوہر کے متعلق دریافت کرنے یا گواہوں کو سلام کرنے سے خیار باطل نہ ہوگا۔ ”فلو سالت عن قدر المهر قبل الخلوة او عن الزوج او سلمت على الشهود لم يبطل خيارها.“ اور مولانا عبدالحی کھضنوی نے اس قسم کی مبالغہ آمیزی کو تکلف اور تشدید قرار دیا ہے۔ ”وما قيل لوسائلت عن اسم الزوج او عن المهر او سلمت على الشهود بطل خيارها نعسف لا دليل عليه“^۳

اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو فوراً دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں تلاش کرنے چاہیں جن کو گواہ بنایا جاسکے اور لڑکی ان کے سامنے کہے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اور آپ کو گواہ بنائی ہوں کہ میں اپنا نابالغی میں کیا گیا نکاح رد کرتی ہوں۔ بعض لوگوں کا تصور خیال ہے کہ اگر وہاں کوئی گواہ میسر نہ آسکے اور آبادی سے دور رہنے کے باعث چند نوں تک وہ کسی کو گواہ نہ بناسکی تو بھی اختیار باطل ہو جائے گا۔ ”فمكثت ابا ما لاتقدر على الشهود وقال الزمهما النکاح ولم يجعل هذا اعذراً“^۴

مسئلہ کی اس نزاکت کے باعث فقهاء احتلاف کو اس مسئلہ میں باکرہ عورت کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے کہ اگر بروقت وہ کسی کو گواہ بنانے پر قادر نہ ہو تو اس وقت بطور خود اس نکاح پر عدم آمادگی کا اظہار کر دے پھر جب گواہ ملے تو اسے یہ نہ بتائے کہ میں فلاں وقت بالغ ہوئی تھی، بلکہ کہے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اور نکاح کو رد کرتی ہوں۔ اس قسم کے ایک مسئلہ میں جب امام محمد نے دریافت کا کیا گیا کہ یہ تو جھوٹی بات ہوئی، اب اس کیونکر جائز ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ضرورت اپنے حق کو بطلان سے بچانے کے لئے وہ جھوٹ بول سکتی ہے اور اس کا جھوٹ بولنا مباح ہوگا۔ ”لاتصدق فی الاشہاد فعازلہا ان تکذب کی لایبطل حقها“^۵ لہ مگر اظہار ناراضگی میں عجالت کا یہ حکم صرف باکرہ کے لئے ہے، نابالغ لڑکا اور نابالغہ شیبہ (شوہر دیدہ) لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اس وقت تک خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان یا عمل سے اس بیوی یا شوہر

۱۔ شرح وقایہ: ۲/۱۔ ۲۔ الفتاویٰ الہندیہ: ۴/۱۰۔ ۳۔ الدر المختار: ۲/۲۵۔

۴۔ عمدة الرعایۃ علی شرح الوقایۃ: ۲/۲۴۔ ۵۔ الفتاویٰ الہندیہ: ۲/۱۰۔ ۶۔ عمدة الرعایۃ: ۲/۲۴۔

کی رفاقت پر رضامندی کا اظہار نہ کر دے۔ مثلاً کہے کہ میں اس سے راضی ہوں یا لڑکا اپنی بیوی کا یا عورت اپنے شوہر کا بوسہ وغیرہ لے لے یا ایسی کوئی بھی حرکت کر گذرے جو میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہے اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اور نکاح لازم ہو جائے گا۔ ”ولا یبطل خیار البلوغ مالم یقل رضیت اویجع منه ما یعلم انه رضاء و کذا لک الجاریة اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ.“^{۱۰}

ہاں اگر بالغ ہونے کے بعد بھی کنواری لڑکی کو اپنے نکاح کی اطلاع ہی نہ ہو تو نکاح کی اطلاع تک اس کا خیار باقی رہے گا اور جو نہی اطلاع ہوئی اسی لمحہ اس کو اس نکاح سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دینا ضروری ہے:

”وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلْهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمْ فَتَسْكُنْ“^{۱۱}

ان میں سے کوئی بھی اگر اس لئے ”خیار بلوغ“ کا استعمال نہ کر سکے کہ وہ اس حق سے واقف ہی نہ تھا اور اسے معلوم ہی نہ تھا کہ ”خیار بلوغ“ کیا چیز ہے تو بھی فقہاء اس کے لئے کوئی گنجائش فراہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کی یہ نہ اوقیانیت معتبر نہ ہوگی حق ختم ہو جائے گا اور نکاح لازم ہو جائے گا۔

”وَلَا تَعذرْ بِالْجَهْلِ وَالْجَهْلُ لَيْسَ بِعَذْرٍ فِي حُقُوقِهَا.“^{۱۲}

اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ عورت قاضی کی طرف رجوع کرے کہ اس کا نکاح نابالغی میں ہوا تھا۔ پھر بالغ ہوتے ہی اس نے اس پر اپنی عدم آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ اسے اس مرد سے گلوخاصی دے دی جائے پھر جب قاضی فیصلہ کر دے تو اب اس کا نکاح رد ہو جائے گا۔ البتہ اس میں یہ سہولت ہے کہ اگر اپنی عدم آمادگی پر گواہ بنالیا تھا تو چاہے ایک مدت مثلاً مہ دو ماہ کے بعد قاضی سے رجوع کرے تو اس کو خیار بلوغ کی ہنا پر نکاح رد کرنے کا حق حاصل رہے گا اور تاخیر کی وجہ سے اس کا یہ حق ساقط نہ ہوگا پہ شرطیکہ اس دوران اس نے شوہر کو اپنے نفس پر قدرت نہ دی ہو۔ ”إِنْ سَمَاعَةً عَنْ مُحَمَّدٍ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَالِكَ وَلَمْ تَنْقُدْهُ إِلَى الْقَاضِيِّ شَهْرِيْنَ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا مَالِمٌ تَمْكِنَهُ مِنْ نَفْسِهَا.“^{۱۳}

باکرہ کا اختیار کب ختم ہوگا؟

اس میں دو مسئلے ایسے ہیں جو قابل توجہ ہیں اول یہ کہ باکرہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی گواہ بنالے اور لمحہ بھر خاموشی بھی اس کے اختیار کو ختم کر دے گی۔ یہاں تک کہ اگر تاخیر ہو جائے تو یہ ”ناکردنی“ بھی کرے کہ جھوٹ کہہ دے کہ ابھی ابھی بالغ ہوئی ہوں۔

حالانکہ ثیہہ اور لڑکے کے مقابلے ایک باکرہ لڑکی کا اس طرح لوگوں کو اپنے بالغ ہونے پر گواہ بنانا اور اس کا

اظہار کرنا بے ظاہر اس کی طبعی غیرت سے بعد معلوم ہوتا ہے۔ شریعت نے نکاح پر رضامندی ہی کو اس کے لئے اتنا باعث شرم سمجھا تھا کہ اس کی خاموشی ہی کو رضامندی کا درجہ دے دیا گیا۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے بالغ ہونے کے بعد اس کی خاموشی ہی کو نکاح پر رضامندی تسلیم کر کے خیار بلوغ کا حق ختم کر دیا۔ حالانکہ اس کی وجہ سے جو دوسرا اثر مرتب ہوا وہ اس سے زیادہ ناگفتنی ہے۔ اس کی غیرت و حیا سے بعيد ہے اور شریعت کے اس مذاق و مزاج کے منافی ہے جو اس کی فطری حیا اور طبیعت کی رعایت کرنا چاہتی ہے۔ بالخصوص ہندوستانی لڑکیوں کا جو مزاج ہے اس کے تحت ان کا اپنے حق کو استعمال کرنا اور بھی دشوار ہے۔ اور یہ طریقہ کار عملًا ان کے حق کو سلب کر لینے کے متاثر ہے۔

دوسری طرف یہ محض ایک "اجتہادی" اور قیاسی مسئلہ ہے جس پر کوئی نص موجود نہیں ہے اور جس کی وجہ محض ایک اجتہادی اصول کی بناء پر نہ کسی اضطرار اور شرعی ضرورت کے بناء پر کذب بیانی تک کی اجازت دینی پڑتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس مسئلہ میں ثیہہ اور لڑکوں کی طرح باکرہ لڑکیوں کو بھی اس وقت تک خیار بلوغ حاصل ہو جب تک کہ وہ صراحة یا عملًا اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر دے۔

خیار بلوغ سے ناواقفیت

دوسرے مسئلہ یہ کہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی خیار بلوغ ہی سے واقف نہ ہو، تو اس کی اس ناواقفیت کو عذر نہیں تسلیم کیا جائے گا اور اس ناواقفیت کی وجہ سے اگر وہ کوئی ایسا عمل کر گذرے جو زوجین ہی کے درمیان جائز ہے تو خیار بلوغ کا حق ختم ہو جائے گا..... یہ بھی محض ایک اجتہادی رائے ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ ہمارا ملک "دارالعلم" ہے اس لئے جہل کا اعتبار نہ ہوگا۔ "والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل" اس کے برخلاف اگر کسی عورت کا نکاح غلامی کی حالت میں ہوا، پھر وہ آزاد کر دی گئی تو آزاد ہونے کے بعد اسے "خیار حق" حاصل ہوتا ہے کہ عہد غلامی کے اس نکاح کو چاہے تو وہ باقی رکھے یا رد کر دے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے وہ خیار کا استعمال نہ کرے تو اس کا حق ساقط نہ ہوگا بلکہ باقی رہے گا اور "جهالت" کا عذر اس کے حق میں معتبر ہوگا۔ اس لئے کہ غلامی اور اپنے آقا کی خدمت کی وجہ سے اس کو یہ موقع ہی نہ مل سکا ہوگا کہ وہ اپنے اس شرعی حق سے واقف ہو۔ "بخلاف المعتقد لأن الأمة لا تترفع لمعرفتها فعذر بالجهل بثبوت الخيار." ۱۰

خود صاحب ہدایہ کا استدلال بتاتا ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ حالات اور عرف سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ وہ

ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتے تھے جو دارالاسلام تھا اور اسلامی قانون اور شرعی احکام و حقوق سے عام لوگ بھی واقف ہوتے تھے، اس لئے انہوں نے بجا طور پر اس عذر کا اعتبار نہ کیا۔ لیکن ہندوستان داراللکھر ہے۔ اور خیار بلوغ جیسے دقيق مسائل کا پوچھنا ہی کیا ہے، عام مسائل سے بھی لوگ ناواقف ہیں، خود صاحب ہدایہ نے باندیوں کے حق میں ”جهالت“ کو عذر تسلیم کیا ہے اس لئے کہ وہ طلب علم کے لئے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتی ہیں، موجودہ زمانے میں اور ہمارے ملک میں جس پہمانہ اور ناخواندہ طبقہ میں نابالغی کے نکاح کا ایک حد تک رواج ہے وہ عموماً مزدور پیشہ اور مغلوب الحال ہے اور تلاش معاش اور حصول روزگار میں وہاں کمسن بچوں کو بھی اس طرح جوت دیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور لڑکیوں میں تو گویا تعلیم کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں یہ بات عین مناسب ہو گی کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ”جهالت“ کو ایک عذر تسلیم کر لیا جائے اور اگر ناواقفیت کی وجہ سے یہ بالغ ہونے والی لڑکیاں اپنی عدم آمادگی کا اظہار نہ کریں یا کوئی ایسی حرکت کر گذریں جو عمل ارضامندی کو بتاتی ہو تو بھی ان کا حق باقی رہے اور اس کے باوجود بھی وہ قاضی کے ہاں فتح نکاح کا استغاثہ کرنے کی مجاز ہوں۔

جهل ایک شرعی عذر!

ہاں اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ ”جهل“ بھی ان امور سے ہے جن کو شریعت نے ایک عذر کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے، گو کہ فقهاء کے یہاں اس کی تفصیلات اور جزئیات میں اختلاف ہے تاہم فی الجملہ اس کا عذر ہونا سمجھی نے تسلیم کیا ہے۔

خیار بلوغ تو بڑا ہم اور دورس مسئلہ ہے جس کا دو آدمیوں کی زندگی پر پوری زندگی کے لئے اثر پڑتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ایسے شخص کو معذور سمجھا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے خلاف شرع کام کر گزرے۔

حضرت معاویہ بن حکم سلمی کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ نماز کی حالت میں گفتگو اور بات چیت حرام کر دی گئی ہے وہ حضور کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک شخص کو چھینک آئی کہتے ہیں میں نے کہا ”یرحمک اللہ“ دیکھا لوگ میری طرف آنکھیں مار رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کی ماں میں ان کو نگل جائیں۔ کیا بات ہے کہ تم لوگ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ اب وہ رانوں پر ہاتھ مارنے لگے میں نے جو دیکھا تو وہ مجھے خاموش کر رہے تھے۔ خیر میں چپ ہو گیا، جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کا سامعلم دیکھا اور نہ آپ کے بعد، خدا کی قسم نہ آپ نے مجھ پر غصہ کیا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا

بس یہ فرمایا نماز میں انسانی گفتگو مناسب نہیں اس میں تو تسبیح، تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔
اس طرح نماز جیسی عبادت میں کہ اگر فاسد ہو جائے تو اس کا اعادہ چند اس دشوار نہیں، پھر بھی آپ نے جہالت کو ایک عذر تسلیم کیا اور ان کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ اسی بناء پر فقهاء کے ہاں اس میں بڑا توسع نظر آتا ہے کہ اگر کوئی عربی شخص غیر عربی زبان میں اپنی ناواقفیت میں طلاق، قسم، کلمہ کفر یا خرید و فروخت وغیرہ کا جملہ ادا کر دے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اور حد نہیں لگائی جائے گی..... ”لوجهل تحریر الحمر عذر لمر يحد“ روزہ دار کو معلوم نہ ہو کہ کھانا ناقض صوم ہے اور ما حول ایسا ہو کہ یہ ناواقفیت بعید از قیاس نہ ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ ”لو

أَكْلُ الصَّائِمِ جَاهِلًا بِالْتَّحْرِيرِ وَكَانَ يَجْهَلُ مِثْلَ ذَالِكَ لَمْ يَفْطُرْ وَالْإِفْطَرُ.“

جب ان معمولی مسائل میں ”جهل“ کا اعتبار ہے تو کیا یہ بات مناسب نہ ہوگی کہ خیار بلوغ جیسے اہم مسئلہ میں ہندوستان اور اس جیسے ممالک کے ما حول وسماج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو عذر مان لیا جائے؟



نفقة نہ ادا کرنے کی بناء پر فتح نکاح

نکاح کی وجہ سے مرد و عورت کے ایک دوسرے پر جو حقوق واجب ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین حق بیوی کا نفقة ہے جو تین چیزوں کو شامل ہے، خوراک، پوشال اور مکان، قرآن مجید نے مختلف موقع پر اس کی تصریح ہے کہ: ﴿وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ "شوہر کے ذمہ بیویوں کا کھانا اور کپڑا ہے معروف طریقہ پر" ﴿وَلِيَنْفَقْ ذُوْسْعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلِيهِ رِزْقُهُ فَلِيَنْفَقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ﴾ "اور اہل کشاش کو چاہیے کہ اپنی کشاش کے مطابق خرچ کریں اور جن پر روزی تنگ ہوان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی عطا کے مطابق نفقة دیں....." ﴿إِسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ "جہاں تم خود رہو وہیں ان کو (اپنی بیویوں کو) بھی رکھو۔"

احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بیوی کا نفقة شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: "ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" "تمہارے ذمہ بھلے طریقہ پر بیویوں کا کھانا اور کپڑا ہے۔"

حضرت ابوسفیان کی بیوی نے ان کے بخل کی شکایت کی تو آپ نے اجازت دی کہ ان کے مال میں سے اتنا لے لو جو تمہارے پیچے کے لئے کفایت کر جائے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قشیری نے دریافت کیا کہ بیوی کا ہم پر کیا حق ہے تو آپ نے حقوق بتاتے ہوئے فرمایا "تطعمها إذا طعمت ونكسوها إذا اكتسيت." ﴿لَهُ

چنانچہ ابن قدامہ نے لکھا کہ اگر شوہر بالغ ہو اور بیوی ناشرزہ اور نافرمان نہ ہو تو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا نفقة شوہر کے ذمہ واجب ہو گا۔

اب سوال یہ ہے کہ شوہر اگر نفقة ادائہ کرے تو کیا حکم ہو گا، آیا بیوی کو طلاق طلب کرنے اور نکاح کے فتح

سلہ البقرہ ۲۳۳ مسلم

سلہ الطلاق

۲

۲۳۳

شیخ بخاری ۸۰۸/۲ و مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہ سلہ ابوداؤد: ۲۹۱/۱، باب فی حق المرأة على زوجها

۱۵۶/۸

کرا لینے کا حق ہو گایا اس پیچیدہ صورت حال سے بچنے کے لئے کوئی تدبیر کی جائے گی؟..... پھر یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نفقہ نہ ادا کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، نفقہ ادا کرنے پر قادر ہی نہ ہو، قادر ہو اور موجود بھی ہو لیکن ادا نہ کرے، شوہر موجود ہی نہ ہو بلکہ غائب ہو گیا ہو۔

اس مسئلہ میں عام فقهاء جن میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یوں کو فتح نکاح کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ البتہ طریق کار اور شرطوں میں ان کے درمیان کچھ اختلاف بھی ہے۔ جب کہ امام ابوحنیفہ مغض اس کی وجہ سے فتح نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ علامہ محمد بن اسماعیل صنعاوی (۱۰۵۹-۱۱۸۲) نے نقل کیا ہے کہ یہی رائے اصحاب طواہ اور صحابہ میں حضرت عمر، علی اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی ہے۔

احناف کی دلیلیں

احناف کی دلیلیں اس طرح ہیں: قرآن مجید کا ارشاد ہے: ﴿وَلِيَنْفُقْ ذُو سُعَةً مِّنْ سُعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقَهِ فَلِيَنْفُقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا﴾ خوش حال کو چاہیے کہ اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے اور جو شگ دست ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے مطابق ہی ذمہ داری سونپتا ہے جو اس کو دیتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وسعت و کشائش کے مطابق ہی مرد پر اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے نفقہ واجب ہے اور اسی کا وہ مکلف ہے اس طرح اگر کوئی مفلس اور بالکل ہی شگ دست ہے تو اس پر نفقہ ہی واجب نہیں ہے، اس لئے اس صورت میں اس کا نفقہ نہ ادا کرنا کوئی جرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۲ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھیں، اسی دوران ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریف لائے۔ دوران گفتگو ان حضرات کو معلوم ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سرزنش کرنے لگے کہ تم لوگ حضور ﷺ سے وہ مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے ان حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اگر نفقہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو اس پر نفقہ واجب ہی نہیں رہتا ہے، ورنہ حضور ﷺ ضرور منع فرماتے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو مانگنے دو۔

سلہ رحمۃ الامۃ: ۳۲۰ المحلی: ۱۰/۱۳۴۔ سلہ سبل السلام شرح بلوغ المرام: ۱/۲۲۳۔ سلہ الطلاق سلہ آیت تحریر کے ذیل میں کتب تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دیکھئے: الدر المنشور: ۶/۹۹، ۹۹/۶ والجامع لاحکام القرآن للقرطبی: ۱۴/۶۹، ۶۹/۱۶۲۔

❷ حضور ﷺ کے زمانہ میں کس قدر افلاس تھا، وہ واضح ہے، صحابہ رضویوں کے بیہان عام طور پر فاقوں کی نوبت آتی تھی، مگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے نفقہ سے عاجز ہونے کی وجہ سے کسی کا نکاح فتح کیا ہو۔

جمهور کی دلیلیں

جمهور کی دلیلیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بالحسان“ (عورتوں کو تکلیف میں بنتانہ رکھو، یا تو بھلے طریقے پر روک رکھو یا خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو)۔

اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا جائز نہیں، جس میں نفقہ سے محروم رکھنا بھی داخل ہے اور ایسی صورت میں یا تو امساک بالمعروف کرنا چاہیے کہ اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کو رکھا جائے یا تسریع بالاحسان یعنی گلوخاصی کر دی جائے لہذا جب وہ ”امساک بالمعروف“ پر قادر نہیں ہے تو ”تسریع بالاحسان“ اس پر واجب ہے اور وہ اس پر آمادہ نہیں ہے تو قاضی اس کی طرف سے طلاق دے دے گا۔

❸ دارقطنی اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضویوں کا اس شخص کے حق میں جو بیوی کا نفقہ ادا نہ کر سکے، فرمان نقل کیا ہے کہ ”یفرق بینہما“ (دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی)۔

❹ سعید بن منصور رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ نے سعید بن میتب رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ سے نقل کیا ہے کہ ان سے ایسے اشخاص کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا۔ ”یفرق بینہما“..... پھر جب ”ابوالزناد“ نے سعید رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ سے دریافت کیا ”کیا یہ سنت ہے؟ تو فرمایا“ ہاں! سنت ہے“..... یہ روایت گو کہ مرسل ہے مگر سعید بن میتب رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ کی مرسل روایات تقریباً تمام ہی محدثین و فقهاء کے ہاں قابل استدلال ہیں۔

حافظ ابن حزم نے اس کی یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ”سنت“ سے حضرت عمر رضویوں کے سنت مراد ہے، مگر یہ عرف واستعمال کے بالکل خلاف ہے۔ ”سنت“ کا مطلق لفظ صاف بتاتا ہے کہ حضرت سعید رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ نے اس کو آپ ﷺ کی اور آپ ﷺ کے عہد کی سنت قرار دیا ہے۔

❻ حضرت عمر رضویوں کا عمل عبد اللہ بن عمر رضویوں کے سے امام شافعی اور بیہقی رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ نے اس طرح نقل کیا ہے۔

”کتب عمر إلی أمراء الا جناد اد عوا فلا نا ناسا انقطعوا عن المدينة“

وَرَحْلَوْا عَنْهَا إِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَاءٍ هُنَّ وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِنِفَقَتِهِنَّ إِلَيْهِنَّ وَأَمَّا أَنْ يَطْلَقُوا وَيَبْعَثُوا بِنِفَقَةٍ مَاضِيٍّ وَبِذَالِكَ يَكُونُ لِلمرأةِ حَقٌّ فِي مَحَاسِبَةِ الْزَوْجِ بِالنِّفَقَةِ الْمَاضِيَّةِ إِنْ امْتَنَعَ الْزَوْجُ عَنِ الْإِنْفَاقِ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَبْقِيَتْ عَلَى نِكَاحِهَا وَإِنْ شَاءَ تَطْلِبُ التَّفْرِيقَ^{۱۰}

ترجمہ: ”حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے امراء الشکر کو لکھا کہ فلاں شخص کو کہو (جو مدینہ سے چلے گئے تھے اور وہاں سے کوچ کر کچے تھے) کہ یا تو اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں یا ان کا نفقہ بھیجیں اور یا طلاق دے دیں اور گزرے ہوئے دنوں کا نفقہ بھی بھیجیں اور اسی لئے عورت کو اس بات کا حق ہے کہ شوہر سے گزرے ہوئے دنوں کے نفقہ کا حساب بھی کر لے پس اگر شوہر نفقہ ادا کرنے سے رک جائے تو بیوی کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے یا علیحدگی کا مطالبہ کرے۔“

❸ آپ نے فرمایا ”لا ضرر ولا ضرار“ (نہ نقصان اٹھاؤ نہ پہنچاؤ) یہ نفقہ کا ایک عام اور بنیادی قاعدہ بھی ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ دفع ضرر کے لئے قاضی مرد کو طلاق پر مجبور کرے یا اس کی طرف سے طلاق دے دے۔

❹ اگر کوئی شخص غلام کا نفقہ ادا نہ کر سکتے تو احناف بھی کہتے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ اسے فروخت کر کے اپنی ملکیت سے نکال دے۔ تو بیوی کے حق میں تو بدرجہ اولیٰ یہ بات واجب ہوگی کہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دیا جائے۔

❺ نامردی کی وجہ سے احناف کے یہاں بھی بیوی فتح نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے حالانکہ اس کی ضرورت وقی بھی ہے اور بھوک کے مقابلے قابل برداشت بھی۔ اس کا تقاضا ہے کہ نفقہ سے محرومی کی صورت میں بدرجہ اولیٰ فتح نکاح کے مطالبہ کا حق ہو۔

احناف کے دلائل پر ایک نظر

احناف نے جو دلائل پیش کئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے مدعای ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں، قرآن کی جس آیت (الطلاق سے) کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ مرد اگر نفقہ پر قادر نہ ہو تو بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ واجب نہ ہوگا لیکن عورت کو طلاق کے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا یا نہ ہوگا؟ یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے اور قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

حدیث سے بھی صرف اس قدر ثابت ہے کہ ازواج نے نفقہ کا مطالبہ کیا یہ مطالبہ عدم قدرت کی وجہ سے ناوجی تھا اس لئے آپ نے شیخین رضوی اللہ تعالیٰ عنہم کی تنبیہ پر خاموش اختیار فرمائی۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیویوں کو تنبیہ کر رہے تھے اور پاپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ ہاں اگر ازواج مطہرات علیحدگی کا مطالبہ کرتیں اور

سلہ موسوعۃ عمر بن الخطاب: ۶۴، نفقہ الزوجہ“

اب بھی آپ سکوت دا اختیار فرماتے تو یہ استدلال بجا ہوتا۔

اسی طرح یہ کہنا کہ نفقہ میں شگلی کی وجہ سے کسی صحابی کا نکاح فتح نہیں کیا گیا بھی، اس وقت دلیل بن سکتا ہے جب یہ بات ثابت ہوتی کہ بعض صحابہ کی بیویوں نے طلاق کا مطالبہ کیا ہوا اور آپ نے مسترد کر دیا ہو۔ جب بیویوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا اور اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے فتح نکاح کا ثبوت کیونکر مل سکتا ہے؟

موجودہ حالات کا تقاضا

لیکن دلائل سے قطع نظر فقهاء احتلاف راجحہ اللہ تعالیٰ عقائد نے ایسی عورتوں کے لئے جو تبادل اور حل پیش کیا ہے موجودہ حالات میں وہ قریب قریب ناقابل عمل ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، عدل و انصاف کا کم مدد اور سہل نظام موجود ہو، اسلامی بیت المال ہو جس کا ایک مستقل مقرضوں کی اعانت اور ان کے قرضوں کی ادائیگی میں مدد اور محتاجوں کے لئے سرکاری خزانہ سے کفالت کی گنجائش ہو۔ پھر اسلامی حکومت یا شریعت کے نفاذ کی وجہ سے اخلاقی برائیاں اور اس کے محکمات کم سے کم ہوں وہاں اگر عورت کو شوہر کے نام پر قرض لینے کو کہا جائے تو یہ قابل عمل بھی ہے اور قابل فہم بھی۔

لیکن جہاں نہ اسلامی حکومت ہے نہ اسلامی بیت المال ہے، پیسوں اور روپیوں میں انسانی عصمت و عفت کا برسرا عام سودا ہوا کرتا ہوا اور پیسوں کی کھنک پر عورتوں کے گریبان عصمت کے تاریخ الگ کئے جاتے ہوں۔ سود کی لعنت نے قرض حصہ کے بجائے پیسوں سے پیسے حاصل کرنے کی ہوں پیدا کر کھی ہو، مقرض کے لئے تعادن کی کوئی خاص مدنہ ہو اور بے سہاروں کی کفالت کا کوئی نظام نہ ہو اور عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لئے نہ صرف زرکشیر بلکہ ”صبرا یوب“ بھی مطلوب ہو، وہاں بھی اگر عورتوں کا نکاح ان کے مطالبہ کے باوجود شوہر سے فتح نہ کیا جائے تو یہ اس کی جان کے لئے بھی مہلک ہے اور اس میں اس کی عصمت و عفت کے لئے بھی خطرہ ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں اس مسئلہ میں جمہور فقهاء کے مسلک پر عمل کیا جائے اور سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ کی نظر کو پیش نظر رکھا جائے۔

مالکیہ کا مسلک

البتہ دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلہ میں طریق کار کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ائمہ تلاشہ کے مسلک کی تفصیلات پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

امام مالک کے مسلک کی تفصیل اس طرح ہے:

..... شوہر گذرے ہوئے ایام کا نفقہ دینے پر قادر نہ ہو مگر حالیہ دنوں کا نفقہ دیتا رہے، تو بیوی کو حق نہیں کہ فتح

نکاح کا مطالبه کرے۔ ”ولهَا أَلْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفْقَةِ حَاضِرَةٍ لَامَاضِيَّةٍ“ اگر نکاح کے وقت عورت شوہر کی تنگ دستی فقر و محتاجی اور نفقہ ادا کرنے کی عدم استطاعت سے واقف ہو یا اس کو واقف کر دیا گیا ہو، پھر بھی اس مرد سے نکاح کر لے تو اب بھی اس کو حق نہیں کہ شوہر کی تنگ دستی کی بنا پر نفقہ کا مطالبه کرے۔ ”إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَ الْعَدْ فَقَرِهِ.“

..... عورت کا معیار زندگی کچھ بھی ہو لیکن مرد معمولی قسم کی غذا اور کپڑا بھی مہیا کر سکے تو عورت فتح نکاح کا مطالبه نہیں کر سکتی۔ ”إِنْ قَدْرَ عَلَى الْقُوَّةِ وَلَوْ مِنْ خَشْنَ الْمَأْكُولِ وَهِيَ عَلَيْهِ الْقَدْرُ أَوْ خَبْرُ بَغْيَرِ أَدْمَ وَعَلَى مَا يَوْارِي الْعُورَةِ وَلَوْ مِنْ غَلِيظِ الصَّوْفِ (وان) كَانَتْ (غَنِيَّةً) شَانِهَا لِبَسُ الْحَرَيرِ.“

قاضی کے پاس جب شوہر کا نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو جانا ثابت ہو جائے اور شوہر موجود ہو تو قاضی اپنی صواب دیدے اس کو کسب معاش اور ادا یگی نفقہ کے لئے ایک مهلت دے۔ اگر اب بھی وہ نفقہ ادا نہ کر سکے تو قاضی اسے حکم دے کہ یا تو نفقہ ادا کرو یا پھر فی الفور اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اگر شوہر طلاق دینے سے گریز کرے تو خود قاضی اس کی طرف سے طلاق دے دے۔ ”فَإِنْ أَثْبَتَ عَسْرَةً تَلُومَ لَهُ بِالْأَجْتِهادِ وَالَاْمْرُ بِهَا أَوْ بِالْطَّلاقِ بِلَا تَوْرِفَ إِنْ طَلَقَ أَوْ أَنْفَقَ وَإِلَّا طَلَقَ عَلَيْهِ بَأْنَ يَقُولُ الْحَاكِمُ فَسَخَّتْ نِكَاحُهُ.“

اگر شوہر موجود نہ ہونہ عورت کے لئے نفقہ چھوڑ کر گیا ہونہ خود عورت نے نفقہ معاف کیا ہو اور نہ شوہر کی طرف سے نفقہ کی ادا یگی کا وکیل ہو، تو اگر اتنا دور ہے کہ آتے آتے دس دن لگ جائیں گے۔ تو قاضی نکاح فتح کر دے گا اور اگر شوہر قریب ہی ہو تو اسے طلب کرے گا کہ خود آؤ یا نفقہ بھجو یا پھر طلاق دے دو، اور شوہر اگر اس کی عدول حکمی کرے تو عام اصول کے مطابق خود قاضی کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ طلاق دے دے۔

..... اگر شوہر صرف اس قدر نفقہ ادا کرنے پر قادر ہو کہ بیوی جی لے اور موت وہلاکت سے اپنے کو بچائے مگر آسودہ و مطمئن نہ ہو سکے تو اس نفقہ کا بھی اعتبار نہیں اور قاضی اس کا نکاح فتح کر دے گا۔ ”(كَانَ وَجَدَ مَا يَسِدُ الرُّمْقَ) اَيْ مَا يَحْفَظُ الْحَيَاةَ خَاصَّةً دُونَ شَبَعٍ مَعْتَادٍ وَمِنْ وَسْطِ فَانِهِ يَطْلُقُ عَلَيْهِ اذْ لَا صَبَرَ لَهَا عَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ.“

..... البتہ اگر عدت کے دوران ہی شوہر بیوی کا مروج طریقہ پر نفقہ ادا کرنے پر قادر ہو گیا، تو اسے بیوی کو لوٹا لینے کی گنجائش ہو گی۔ عدت گذر جانے کے بعد یہ حق باقی نہیں رہے گا۔ ”(وله) اَيْ لِزُوجِ الَّذِي طَلَقَ عَلَيْهِ لَعْسَرَةً (رجعتها) اَنْ وَجَدَ فِي الْعَدَةِ يَسَارًا يَقُولُ بِوَاجْبِ مَثْلِهَا عَادَةً.“^۱

سلہ الشرح الصغير للدر دیر على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك: ۴۶/۲، ۷۴۵ والثمر الداني في تفريغ المعانى شرح رسالة ابن ابي زيد القبروانى: ص ۴۹۳

اگر شوہرنے نفقة ادا نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اس سے عاجز تھا لیکن قاضی کے سامنے وہ اپنی مجبوری ثابت نہ کر سکتا تو قاضی فی الفور اس کی طرف سے طلاق دے دے گا۔ "يُدْعى العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه في هذه الحالة يطلق عليه القاضي حالاً على المعتمد."

اور اگر وہ قدرت کے باوجود نفقة ادا نہ کرے اور خود اس کا مفترض ہو تو ایک رائے یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ نفقة ادا کرنے لگے۔ ایک رائے ہے کہ اس سے طلاق ولوائی جائے تاہم اگر وہ ان میں سے کسی کو قبول نہ کرے تو پھر قاضی نکاح فتح کر دے گا۔ "فإذا لم يجب عليه بشيء طلاق القاضي عليه فوراً."

شوافع کا مسلک

امام شافعی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كے ہاں احکام اس طرح ہیں:

..... شوہر آخري درجہ کا نفقة۔ لباس اور رہائش گاہ بھی فراہم نہ کر سکتا ہو۔ "أَن يعجز عن أقل نفقة."
..... موجودہ دنوں اور آنے والے دنوں کا نفقة بھی ادا نہ کر سکے۔ گذشتہ دنوں کا بقاہی ادا نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے نکاح فتح نہ ہوگا۔ "أَن يكون عاجزاً عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة أَما العجز عن النفقة المتجمدة فلا فسخ به"۔
بیوی کا نفقة ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ اس کے خادم کا نفقة ادا نہ کر سکے تو موجب فتح نہیں۔ "أَن يكون عاجزاً عن نفقة الزوجة."

ان شرطوں کے ساتھ شوہر کی عمرت کی بنا پر قاضی عورت کا نکاح فتح کر دے گا۔
..... اگر شوہر خوش حال ہو لیکن قصد نفقة نہ ادا کرے تو نکاح فتح نہ کیا جائے گا، بلکہ عدالت جبرا اس سے نفقة وصول کرے گی۔

..... اگر شوہر غائب ہو تو اس کے خوش حال اور شنگ دست ہونے کا اعتبار ہوگا۔ اگر شنگ دست ہے تو قاضی نکاح فتح کر دے گا۔ اور خوش حال ہو اور اس کی جائداد موجود ہو تو چاہے اس کا کوئی پتہ نہ چلتا ہو پھر بھی نکاح فتح نہیں ہوگا بلکہ اس کے مال میں سے نفقة ادا کیا جائے گا۔ "و إِذَا كَانَ الْزَوْجُ غَايْباً وَلَمْ يُثْبِتِ الْعُسَارَةُ بِيَنِّهِ يَكُونُ كَالْحَاضِرِ الْمُمْتَنَعُ فَلِيُسْ لَهَا طَلْبٌ فَسْخٌ نِكَاحِهِ سَوَاءً انْقَطَعَ خَبْرُهُ أَوْ لَمْ يَنْقُطْ عَلَى الْمَعْتَمِد"۔

لله الفقه الاسلامی وادله: ۵۸۲/۴: ۵۸۲۔ یہی رائے امام احمد کی بھی ہے۔ الاقناع: ۱۴۸/۴: ۵۸۳/۲: ۵۸۳۔ ۳ہ کتاب الفقه علی المذاہب الاربیعہ: ۴/۴: ۵۸۲۔

البته عورت کی نکاح سے قبل شوہر کے حالات سے واقفیت اور نتا واقفیت کا اعتبار نہیں۔ اگر وہ واقف ہو پھر بھی نکاح کے بعد نفقہ سے محرومی کی وجہ سے اسے طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہو گا۔ اس لئے کہ ممکن ہے اس نے اس موقع پر نکاح کیا ہو کہ آئندہ وہ کسب معاش کرنے لگے گا۔ ”ولا يشترط عدم علمها بفقره عند العقد فإذا علمت ورضيت به ثم عجز عن الإنفاق كان لها الفسخ“ اور خود امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كے الفاظ میں ”ولو عدمت عشرة لانه يمكن أن يoso.“^۱

شوافع کے مسلک کی ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر قاضی عورت کے حلقوہ میں نہ رہتا ہو تو وہ شوہر کو نفقہ حاصل کرنے کے لئے تین دنوں کی مہلت دے کر خود بھی اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہے۔ ”فاذ
المر يكتن في جهتها قاضي ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام وفسخت العقد في صبيحة الرابع
بنفسها.“^۲

حنابلہ کا مسلک

امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے ہاں اکثر مسائل شوافع کے مطابق ہیں، عورت کے نکاح سے پہلے شوہر کی عورت سے واقفیت بلکہ اس پر راضی ہونے کے باوجود عورت طلاق کا مطالبہ کرنے کی مجاز ہے، شوہر کو نفقہ فراہم کرنے کی مہلت ان کے ہاں بھی تین دن ہے۔ امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کہتے ہیں کہ جو شوہر صانع یا تاجر وغیرہ ہو اور وقتی تنگی یا بیماری میں بتلا ہے اس کے لئے کچھ زیادہ دنوں کی مہلت دی جائے گی۔ البته عورت کا نکاح فسخ کرنے کا مجاز صرف قاضی ہی ہو گا۔

”و إن عسر الزوج بنفقتها أو ببعضها من نفقة العسر لا بمتاز د منها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرط خيرت على التراخي بين الفسخ من غير إنتظار وبين المقام وتمكينه ولو كانت موسرة فان اختارت المقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة به أو بشرط أن لا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدلها الفسخ فلهذا ذلك“^۳

مہلت کی مدت

شوہر کو نفقہ ادا کرنے پر قدرت کے لئے کس قدر مہلت دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں علامہ صنعاوی نے لکھا

^۱ مختصر المعنی: ۲۲۳

^۲ كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: ۵۸۲/۲

^۳ الافتتاح: ۱۴۶/۴

ہے کہ امام مالک کے ہاں ایک ماہ، امام شافعی کے ہاں تین دن حماد کے ہاں ایک سال، بعض حضرات کے یہاں ایک ماہ اور دو ماہ کی مدت ہے، نیز اور پر امام احمد کے ہاں بھی تین دنوں کی مہلت کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قاضی کی صوابید پر منحصر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ ابو بركات الدردری نے الشرح الصیری میں اور حاوی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے اور اوپر اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے، صنعتی جو خود شافعی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں:

”قلت لا دليل على التعيين بل ما يحصل به التضير“^۱
 ترجمہ: ”میں کہتا ہوں کہ متعین کرنے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ وہ تمام عیوب اسی میں شامل ہیں جن سے ضرر پیدا ہو۔“

کلمہ آخر

مختلف مذاہب کی تفصیلات موجودہ حالات و ماحول اور شریعت اسلامی کی روح کو سامنے رکھنے سے اس طرف ڈہن جاتا ہے کہ فقه مالکی پر اس مسئلہ میں ہندوستان میں عمل کیا جائے۔ البتہ اس مسئلہ میں کہ عورت پہلے سے شوہر کی تنگدستی سے واقف ہو اس رائے کو اختیار کیا جائے جو شوافع اور حنابلہ کی ہے اور اس کی وجہ سے نکاح فتح ہوا کرے۔ اس لئے کہ نفقہ عورت کا ایک مستقل حق ہے جو یوں مانیو ما واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک بار وہ اس سے اپنی بے وقوفی یا مستقبل کی توقع پر دستبردار بھی ہو جائے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آئندہ بھی اس قوام حیات سے محروم ہی رہ کر زندگی بسر کرتی رہے۔



مفقود اخیر اور غائب شخص کی بیوی کا حکم

مفقود اخیر شوہر کی بیوی کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلہ میں مختلف سوالات ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے:

۱ مفقود اخیر کا اطلاق کس پر ہوگا؟

۲ مفقود اخیر شخص کی بیوی نکاح کی مجاز ہوگی یا نہیں؟ اور اگر ہوگی تو اس کے لئے کتنی مدت اور کیا شرطیں ہیں؟

۳ مفقود اخیر شخص اگر بیوی کی گذر اوقات کے لئے کچھ چھوڑ کرنا جائے اور نہ خود بیوی کے لئے کفالت کا کوئی اور ذریعہ ہے تو کیا اب بھی اسے ایک مدت تک انتظار اور صبر کرنا ہوگا؟

۴ مفقود اخیر اگر اپنی بیوی کے نکاح کے بعد آئے تو اب وہ عورت کس کی بیوی تصور کی جائے گی؟

۵ جو شخص بالکل لاپتہ نہ ہو لیکن آتا نہ ہو، غائب رہتا ہو، اس کا کیا حکم ہوگا؟

ہندوستان کے موجودہ حالات میں غربت و افلas اور معاشی عمرت و تنگی کے باعث پسمندہ طبقات میں مردوں کے فرار اور لاپتہ ہو جانے کے واقعات جس کثرت سے پیش آرہے ہیں اور عورتوں کی کمپرسی اور غربت و بے سہارگی کی وجہ سے جن فتنوں کا اندریشہ دامن گیر رہتا ہے، اس نے اس مسئلہ کو بہت اہم بنادیا ہے۔ آئیے ہم اس مسئلہ پر کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں غور کریں۔

مفقود اخیر

مفقود اخیر سے وہ شخص مراد ہے جو اس طرح غائب ہو کہ کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے؟ اور زندہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ابو الحسن القدوری کے الفاظ میں "فلم یعرف له موضع ولا یعلم أحی ہو أمر میت" "شرف الدین مقدسی نے اس کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے جیسے کوئی شخص اہل و عیال کے درمیان سے گم ہو جائے۔ نماز کو نکلے اور واپس نہ آئے۔ کسی قریبی جگہ کسی ضرورت کے لئے جائے اور پھر اس کا کوئی پتہ نہ چلے یا کسی ریگستان یا میدان جنگ کو کوچ کر جائے یا کسی کشتی میں سوار ہو جو ڈوب جائے اور یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ وہ بھی ڈوب

گیا یا نجح کیا۔۔۔ اس طرح جو شخص کبھی یہاں کبھی وہاں رہے۔ کسی ایک جگہ جنم کرنے رہے اور اہل حق کا حق ادا نہ کرے، وہ فقہاء کی اصطلاح میں "مفقود الخبر" نہیں سمجھا جائے گا۔

مفقود الخبر شخص کی بیوی

مفقود الخبر شخص کی بیوی دوسرے سے نکاح کی مجاز ہوگی یا نہیں؟ اس میں فقہاء کی رائیں مختلف ہیں: اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قالی ہے کہ جب تک شوہر کی موت واقع نہ ہو جائے عورت نکاح کی مجاز نہیں، ابن الہی شیبہ نے حکم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے واسطے سے حضرت علی رَضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سے یہی رائے نقل کی ہے کہ "إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أأن يموت" شعاعی کہتے ہیں عورت اس کے مر نے یا واپس ہونے کا انتظار کرے۔ "حتى يرجع أو يموت" ابو قلابہ کہتے ہیں جب تک شوہر کی موت واضح نہ ہو جائے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ "حتى تبين لها موته" یہی رائے ابراہیم خنی، حماد، حکم، جابر بن زید اور محمد سے بھی منقول ہے۔ ابن حزم کی بھی یہی رائے ہے اور انہوں نے اپنی تلاش و جستجو سے اس فہرست میں خاصاً اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جن لوگوں سے یہ رائے نقل کی ہے ان میں مذکورہ فقہاء کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر۔ تابعین میں حسن، خلاس بن عمر، ابراہیم خنی، حکم بن عقبہ، عطا، زہری، مکحول، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن مسیتب، قادة، ابوالزناد، ربیعہ، ابن الی لیلی، ابن شبرمه، عثمان بتی، سفیان ثوری، امام اوزاعی، لیث بن سعد اور داؤد ظاہری بھی ہیں۔ یہی رائے امام ابوحنیفہ اور ان کے صاحبین کی بھی ہے۔ اور قول جدید کے مطابق امام شافعی کی بھی۔^۶

یہاں اس بات کی وضاحت کروئی مناسب ہوگی کہ احناف کے ہاں اتنی عمر کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے جس میں غالب گمان ہو کہ اب شوہر کی موت ہو چکی ہوگی، یہ مدت انتظار کیا ہوگی؟ اس سلسلہ میں خود فقہاء احناف کے یہاں خاصاً اختلاف پایا جاتا ہے۔ شرح وقاریہ میں محمد بن فضل اور محمد بن حامد سے ۹۰ سال نقل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پرفتویٰ ہے امام ابوحنیفہ سے ایک قول صرف ۲۰ سال کا مروی ہے بعض حضرات نے ۴۰ اور ۵۰ سال نقل کیا ہے۔ ایک روایت امام صاحب اور صاحبین سے ۸۰ سال نقل کی جاتی ہے۔ اور صاحب جامع الرموز نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسی پرفتویٰ ہے۔ "وعلیہ الفتوی فی زماننا" صاحبین سے ایک قول سو ۱۰۰ سال امام محمد سے ایک ۱۱۰ اور امام ابویوسف سے ایک روایت ۱۵۰ سال کی بھی نقل کی گئی ہے۔ تاہم سب

سلو الاقناع: ۱۱۳/۴۔ ۷ مصنف ابن الہی شیبہ: ۲۲۶/۴، ۲۲۷ فی امرأة المفقود۔ ۷ المحلی: ۲۲۹/۱۰۔

۷ تبیین الحقائق: ۱۲/۲۔ ۳۱۱۔ ۷ کتاب الامر: ۹۳۲/۳۔

سے قرین قیاس یہ قول ہے کہ اس مرد کے ہم عمر لوگ جب برجائیں تو سمجھا جائے کہ وہ مرچکا ہے اور اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے۔^{۱۷}

دوسری رائے یہ ہے کہ شوہر کے غائب ہونے کے بعد جب عورت مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے تو پہلے قاضی اس کے متعلق تحقیق کرے جب اس کا کوئی پتہ نہ چلے تواب عورت کو چار سال انتظار کا حکم دے۔ پھر چار سال کے درمیان بھی اگر شوہرنہ آئے تواب عورت کو اجازت دی جائے کہ وہ ”عدت وفات“ (۲۳ ماہ ۰۰ دن) گذار کر دوسرا نکاح کر لے۔

علامہ ابن حزم کو اعتراف ہے کہ اوپر جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بہتوں سے ایسی روایت بھی منقول ہیں کہ چار سال کی مہلت دے کر وہ عورت کو نکاح ثانی کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے قوی سند سے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی دنوں سے نقل کیا ہے کہ وہ مفقود الخیر شخص کی بیوی کو چار سال کے انتظار اور چار ماہ دس دن کی مدت کے بعد نکاح ثانی کی مجاز گردانے تھے۔ امام مالک نے بھی اسی روایت کو نقل کر کے اس پر اپنے مسلک کی بنارکھی ہے اور عورت کو نکاح ثانی کی اجازت دی ہے۔ یہی رائے امام احمد کی ہے۔ البتہ امام احمد کے ہاں چار سال اور چار ماہ دس دنوں کا انتظار عورت خود ہی کر لے یہ کافی ہے۔ قاضی کے پاس جانے کی چندال ضرورت نہیں۔ ”فإنها تربص أربع سنين ثم تعتد فللو فات أربعة أشهر وعشرا ولا يفتقر الأمر إلى الحاكم بحکم بضرب المدة وعدة الوفاة.“^{۱۸}

پہلے گروہ کے دلائل

جو لوگ مفقود الخیر شخص کی بیوی کو اس کی موت کی خبر آنے یا قیاس و قرآن سے اس کا اندازہ ہونے تک دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتے، ان کے دلائل یہ ہیں:

- ① حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مفقود الخیر شخص کی بیوی اس کی بیوی ہے جب تک کہ اس کی موت و زندگی واضح نہ ہو جائے: ”امرأة المفقود امرأة حتى ياتيها الخبر.“^{۱۹}
- ② حضرت علی سے مروی ہے کہ مفقود الخیر شخص کی بیوی کو صبر کرنا چاہیے تا آنکہ اس کی موت واضح ہو جائے یا طلاق دے دے۔ ”فلتصبر حتى ياتيها موت أو طلاق.“^{۲۰}

- ③ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اس مسئلہ میں حضرت علی کی موافقت ثابت ہے۔ ”عن ابن حریج

سلہ جامع الرموز: ۱۶۵/۳ (مطبوعہ نوکشوار تھہنو) تبیین الحقائق: ۳/۲۱۲۔ سلہ مصنف ابن ابی شیبہ: ۴/۲۲۷۔

سلہ المدونۃ الکبیری: ۹۲/۲۔ سلہ الاقناع: ۴/۱۱۳۔ سلہ دارقطنی مع التعليق المفہومی: ۳/۲۱۲۔

سلہ التعليق المفہومی، علی الدارقطنی: ۲/۲۱۲۔

قال بلغنى عن ابن مسعود أنه وافق على ابن أبي طالب في إمرأة المفقود.^{۱۷} امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَقْوَالْيَنْ نے بڑی قوت سے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے استدلال کیا ہے کہ میرے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شوہر حاضر ہو یا غائب نکاح کے احکام نفقہ، ایلاع، ظہار، وقوع طلاق کے احکام جوں کے توں نافذ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدت یا تو طلاق کی وجہ سے ہوتی ہے یا وفات کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے کہ اگر ایک فریق خشکی یا سمندر میں غائب ہو جائے یادشمن قتل کر کے نامعلوم جگہ لے کر چلا جائے تو زوجین میں سے ایک کے مال سے دوسرے کو اس وقت تک دراثت نہیں دی جائے گی جب تک کہ دوسرے کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ پھر جب پہلے مسئلہ میں نکاح کے احکام باقی ہیں۔ تیری صورت کے مطابق موت کے احکام جاری نہیں ہوئے۔ اور دوسرے مسئلہ کے مطابق عدت کا طلاق اور وفات کے سوا کوئی اور موقع نہیں، تواب مفقود شخص کی بیوی کے لئے دوڑانکاح کس طرح جائز ہوگا؟ اور وہ عدت وفات کیونکر گزارے گی؟^{۱۸}

دوسرے گروہ کے دلائل

جو لوگ چار سال کی مدت کے بعد عورت کے نکاح کو قابل فتح تسلیم کرتے ہیں ان کی دلیلیں یہ ہیں:

① حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی سے مردی ہے کہ مفقود شخص کی بیوی چار سال انتظار کرے اور چار ماہ دس دن عدت گزارے۔ ”فَالَا فِي إِمْرَةِ الْمَفْقُودِ تُرْبَصُ أَرْبَعَ سَنِينَ وَتَعْتَدُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعِشْرًا۔“

ابن أبي شيبة، ابن حزم اور مختلف اہل علم نے ابن أبي لیلی کے واسطے سے حضرت عمر کا اس سلسلہ میں قول اور ایک خاص قضیہ جس میں شوہر کو جن لے گئے تھے۔ اسی کے مطابق فیصلہ نقل کیا ہے۔

ہر چند کے صاحب ہدایہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت عمر رَضْفَةُ اللَّهِ لِتَقْوَالْيَنْ نے اس مسئلہ میں حضرت علی رَضْفَةُ اللَّهِ لِتَقْوَالْيَنْ کی رائے کی طرف رجوع کیا تھا۔ لیکن حدیث کی کتابوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور حافظ ابن حجر جسیے محقق کا کہنا ہے کہ مجھے یہ بات نہ مل سکی۔

”أَمَارِجُوعَ عَمْرَ فَلَمْ أَرَهُ۔“^{۱۹}

② اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَمْسِكُو هُنْ ضَرَارًا﴾ اس طرح ایک عورت کو زوجیت میں رکھنا کہ شوہر خود لاپٹہ ہو اور اس کی حیات وزیست کی بھی بیوی کو خبر نہ ہو اور وہ ان کی طرف سے کم از کم صفائی حق سے یکسر محروم

۱۷ المحتلي لابن حزم: ۱۳۸/۱۰۔ ۱۷ کتاب الامر: ۵/۲۳۹ امرأة المفقود

۱۸ ابن أبي شيبة رواه عن عبد الأعلى عن معمرا عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمرو عن عثمان: ۴/۲۳۷

۱۹ الدرایہ فی تحریج احادیث الہدایہ: ۶۰۲/۲

ہو، ضرر کے ساتھ روکے رکھنے کے سوا اور کیا ہے؟

● حدیث میں ہے "لا ضرر ولا ضرار"۔ یہاں اس عورت کو اب بھی مرد کی زوجیت میں باقی رکھنا صریح طور پر اسے ضرر میں بچنا رکھنا ہے جس میں عملاؤہ شوہر کی حمایت و صیانت اور افادیت سے محروم ہو کر رہ گئی ہے۔ علامہ صنعاۃ نے اس آیت اور روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال آثار موقوف ہیں یعنی صحابہ کے اقوال ہیں اس لئے ان سے استدلال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ "وَهُذَا أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ۔" ۱۷

طرفین کے دلائل پر ایک نظر

جب آپ ان دلائل پر تقابلی نظر ڈالیں گے تو محسوس کریں گے کہ خاص اس مسئلہ سے متعلق صرف ایک "نص" ہے جس کی نسبت آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَاٰسِہٖ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی طرف ہے اور وہ ہے دارقطنی کی روایت "امرأة المفقود امرأة حتى ياتي البيان"۔ اگر یہ روایت محمد ثانہ اعتبار سے صحیح ہوتی تو یہ اس باب میں "دلیل قاطع" ہوتی۔ مگر یہ انتہائی ضعیف ہے۔ اس کو ابو حاتم، نیہجی، ابن قطان، عبدالحق اور مختلف محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے مولانا عبدالحی رحمید اللہ تعالیٰ لکھنؤی اس حدیث کی سند کے متعلق لکھتے ہیں۔ "فِيهِ مُتَرُوكُونَ وَضُعْفَاءُ فَلَا يَقُولُ حَجَّةً" حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ "سوار بن مصعب" محمد بن شریعت سے روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں ہی متزوک ہیں۔ یعنی محدثین کے نزدیک ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔

اس طرح حدیث مرفوع کسی کے پاس نہیں ہے، رہ گئے آثار صحابہ تو یہ متعارض ہیں ایک طرف حضرت علی کا عمل ہے تو دوسری طرف حضرت عمر کا، حضرت علی کی موافقت حضرت ابن مسعود نے کی ہے تو حضرت عمر کی موافقت حضرت عثمان غنی نے، عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس سے اگر حضرت علی کی موافقت مروی ہے تو خود ابن حزم نے اس مسئلہ میں حضرت عمر کی موافقت بھی نقل کی ہے: "عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبْنَى عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ جَمِيعًا فِي إِمْرَأَةِ الْمُفْقُودِ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سَنِينَ۔" ۱۸

مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا اثر قیاس کے مطابق ہے کہ جب شوہر زندہ ہے تو اس کی بیوی نکاح ثانی کیونکر کرے؟ اور حضرت عمر کی روایت خلاف قیاس ہے اور جو روایت خلاف قیاس ہو اور صحابی سے منقول ہو وہ احناف کے ہاں حکم میں حدیث مرفوع، یعنی خود آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَاٰسِہٖ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے قول کے ہے، اس لئے حضرت عمر کا اثر بکمزلہ حدیث مرفوع کے ہے اور قابل ترجیح ہے۔

سلہ سبل السلام: ۲۰۷/۳ سلہ حوالہ سابق سلہ عمدۃ الرعایۃ: ۳۹۳/۲

سلہ الدرایہ فی تعریج احادیث الہدایہ: ۶۰۲/۲ سلہ المحتلی: ۱۳۵/۱۰ سلہ عمدۃ الرعایۃ فی حل شرح الوقایۃ: ۳۹۳/۲

اب ہمیں قیاس و مصلحت کی طرف آنا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام شافعی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے پہلے مسلک کی حمایت میں جو قیاسات پیش کئے ہیں وہ ظاہر ہونے کے باوجود محل نظر ہیں، یہ صحیح ہے کہ شوہر غائب اگر طلاق دے تو طلاق پڑ جاتی ہے، ایلاع کرے تو ایلا ہو جاتا ہے، نفقہ اس کے ذمہ واجب رہتا ہے اس لحاظ سے نکاح کے احکام باقی ہیں۔ لیکن اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نکاح محض ایک قانونی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک ”انسانی ضرورت“ بھی ہے اور وہ عملًا اس وقت بے فائدہ ہو کرہ گیا ہے اس لئے قاضی اس بات کا مجاز کیونکر نہ ہو کہ وہ رفع ضرر کے لئے عورت کو نکاح ثانی کی اجازت دے دے۔

عورت کے نکاح ثانی کو ”مال“ اور راشت“ پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں، مال و جائیداد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مالک کی موجودگی کی مقاضی ہو، لیکن یہوی کی فطرت اس بات کی داعی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ رہے اس کے بغیر اس کے داعیہ نفس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، مفقود الخبر شخص کی وفات کا گو علم نہیں ہے لیکن قاضی اس کی طویل غیبت کو حکماً وفات کا درجہ دے رہا ہے، اس لئے وہ ”عدت وفات“ گذار رہی ہے، اس لئے یہ عدت وفات میں داخل ہے۔

اس کے مقابل دوسرے گروہ نے قرآن و حدیث کے جس عمومی خطاب اور دین کے مجموعی مزاج و مذاق نیز شریعت کے مسلمہ قواعد سے استدلال کیا ہے، وہ اس موقع محل پر بالکل صحیح محسوس ہوتا ہے اور شریعت کے مجموعی مزاج، اس کی روح اور اپرٹ کے عین مطابق بھی، اس لئے کہ اگر کسی عورت کو پوری زندگی ”صبر و قناعت“ کی تصوری بن کر وقت گذار نے کو کہا جائے تو موجودہ سماجی اور اخلاقی حالات کے تحت کچھ بعید نہیں کہ وہ انسانی فطرت کے تحت کسی دام حرص و ہوس میں پھنس جائے۔

متاخرین احناف کا فتویٰ

چونکہ عملاً مفقود الخبر کی یہوی کو زندگی بھرنے کا سے محروم رکھنا ایک مشکل بات بھی تھی اور بہت سے فتنوں کا باعث بھی بن سکتی تھی، اس لئے بعد کو چل کر فقهاء احناف نے بھی اس منہل میں مالکیہ کی رائے اختیار کرنے کی اجازت دی ہے چنانچہ جامع الرموز کے مصنف مالکیہ کا مسلک نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”فلو أفتی به في موضع الضرورة ينبغي أن لا يأس به على ما أظن.“^{۱۶۵/۳}

حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بھی مالکیہ کی رائے پر فتویٰ دیتے ہوئے احناف کی دو اور کتابوں سے اس کے حق میں عبارتیں نقل کی ہیں:

”تعالیٰ اللہ علی الامر علی الدراخوار“ میں ہے۔

”نعم مذهب مالک والقدیم من مذهب الشافعی تقدیره بأربع سنین لكن في حق عرسه لا غير فتنکح بعد ها كما في النظر فلو أفتی به في موضع الضرورة ينبغي أن لا باس به على ما اظن كما في القهستانى.“

ترجمہ: ”ہاں امام مالک اور امام شافعی کا قدیم مذهب یہ ہے کہ چار سال انتظار کرے لیکن یہ صرف اس کی بیوی کے حق میں ہے پس وہ اس کے بعد نکاح کرے گی جیسا کہ لطم میں ہے اور اگر ازراہ ضرورت اسی پر فتویٰ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ قہستانی میں ایسا ہی ہے۔“

اور ”حسب المتفقین“ میں ہے:

”قول مالک معمول به في هذه المسئلة وهو أحد قولى الشافعى ولو أفتى الحنفى بذالك يجوز فتواه لأن عمر قضى هكذا في الذى استهواه الجن بالمدينة وكفى به إماماً.“^۱

ترجمہ: ”اس مسئلہ میں امام مالک کا قول قابل عمل ہے اور یہی امام شافعی کا بھی ایک قول ہے اور اگر حنفی اسی کے مطابق فتویٰ دے دے تو اس کا فتویٰ جائز ہوگا اس لئے کہ حضرت عمر رَضِيَ اللہُ عَنْهُ نے اس شخص کے حق میں جس کو مدینہ سے جن اٹھا کر لے گیا تھا، ایسا ہی فیصلہ کیا ہے اور وہ بحثیت ”امام“ کافی ہیں۔“

نیز مولانا لکھنؤی نے شرح وقایہ کے حاشیہ میں ”المنتقى شرح الملتقى“ کے مصنف سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء میں مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا عبد الصمد رحمانی نے بھی حالات و مصائر کے تحت اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

فقہاء مالکیہ کا طریقہ

جب اس مسئلہ میں فقہاء مالکی پر فتویٰ ہے تو مناسب ہے کہ مالکیہ کے مسلک کی تفصیل نقل کروی جائے۔ امام مالک رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ کے ہاں مفقود کی پارچے صورتیں ہیں:

سلہ فتاویٰ مولانا عبد الرحمنی لکھنؤی بر حاشیہ خلاصۃ الفتاویٰ

سلہ عمدة الرعایہ فی حل شرح الوقایہ: ۳۹۳/۲

سلہ اول الذکر کا نقطہ نظر جانے کے لئے ”الحیلۃ الناجڑۃ“ اور ثالث الذکر کی تحقیق ”كتاب الفسخ والتغريق“ میں ملاحظہ ہو۔

۱ وہ جو دارالاسلام سے لاپتہ ہوا اور کسی وباً مرض کا زمانہ نہیں ہو۔

۲ جو دارالاسلام سے کسی وباً مرض مثلاً طاعون وغیرہ کے درمیان منقوص ہو گیا ہو۔

۳ اہل اسلام کی باہمی جنگ کے دوران لاپتہ ہو۔

۴ جو دارالحرب سے لاپتہ ہو۔

۵ جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ کے موقع سے لاپتہ ہو جائے۔

ہندوستان دارالحرب تو نہیں ہے البتہ یہ دارالاسلام بھی نہیں ہے، تاہم مفقود کے مسئلہ میں ہندوستان کا حکم دارالاسلام ہی کا ہونا چاہیے۔ اس لئے قانونی طور پر جس طرح ایک مسلمان شہری ”دارالاسلام“ میں مامون ہوتا ہے اسی طرح ہندوستان کے سیکولر قانون میں بھی اس کو تحفظ حاصل ہے۔

دارالاسلام میں عام مفقود لاپتہ شخص کا حکم یہ ہے کہ:

۱ عورت قاضی کے پاس فتح نکاح کا دعویٰ دائر کرے۔ ”رفعت أمرها الى السلطان.“

۲ قاضی اولاً معاملہ کی تحقیق کرے۔ لوگوں سے دریافت کرے جہاں ہو وہاں سے پتہ لگائے۔ ”ينظر فيها ويكتب الى موضعه الذى خرج اليه.“

۳ جب کوئی پتہ نہ لگ سکے تو اب قاضی اس کو چار سال کی مهلت دے کہ اس میں وہ شوہر کا انتظار کرے۔ فاذا پنس منه ضرب لها في تلك الساعة اربع سنين۔ از خود عورت کا انتظار معتبر نہیں۔ چنانچہ جنون مالکی نے امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ عورت از خود بیس سال تک انتظار کے بعد بھی قاضی سے رجوع کرے تو بھی قاضی پھر اس کے لئے مدت انتظار (چار سال) متعین کرے گا۔ ”وان قامتعشرين سنة.“

۴ جہاں قاضی شریعت موجود ہو وہاں ”جماعت المسلمين“ بھی یہ کام انجام دے سکتی ہے۔

۵ چار سال کے انتظار کے بعد اگر مرد نہ آئے تو اب عورت از خود چار ماہ دس دنوں کی عدت وفات گذارے اس کے بعد وہ دوسرے نکاح کی مجاز ہو جائے گی۔ اس عدت کے لئے قاضی کے پاس رجوع ہونا ضروری نہیں، بلکہ خود اس کا ارادہ بھی ضروری نہیں اگر نیت نہ تھی دنوں کے حساب میں غلطی ہو گئی اور ”عدت وفات“ گذر گئی تو اب وہ گذر چکی۔

ہمارے زمانہ میں اخباری اشتہارات بھی کسی معاملہ کی تحقیق و شخص کے لئے ایک اہم ذریعہ ہیں اور اس کے

سلہ حاشیہ شیخ احمد بن محمد صاوی مالکی علی الشرح الصغیر: ۲۹۲/۲ سہ المدونۃ الکبریٰ: ۹۲، ۹۲/۲ سہ چونکہ فقهاء احناف کے بیہاں ہندوستان جیسے غیر اسلامی ملکوں میں بھی دارالقضاء قائم ہو سکتا ہے اس لئے ”جماعت المسلمين“ کی ضرورت نہیں۔

سہ المدونۃ: ۱۰۹۳/۲ الشرح الصغیر: ۶۹۵/۲

ذریعہ بھی قاضی تحقیق کر سکتا ہے۔^۱

شوہر نفقة چھوڑے یا عصمت کو اندیشہ ہو!

لیکن ظاہر ہے اس پر عمل اسی وقت ممکن ہے جبکہ مفقود الخبر شوہر نفقة چھوڑ کر گیا ہو یا کوئی ایسی جائداد ہو جس کو فروخت کر کے نفقة حاصل کیا جاسکتا ہو، اور عورت اس پر قادر بھی ہو۔ اگر وہ نفقة چھوڑ کرنے گیا ہو تو ایسی صورت میں قاضی اپنی صواب دید سے اس سے کم مدت میں بھی نکاح فتح کر سکتا ہے۔ علامہ صنعتی نے امام مسکنی کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”لَكُنْ أَنْ تَرُكَ لَهَا الْغَائِبُ مَا يَقُولُ بِهَا فَهُوَ كَالْحَاضِرِ أَذْلَمُ يَفْتَهَا إِلَّا الْوَطَأُ وَهُوَ حَقٌ لَهُ لَا لَهَا وَلَا فَسْخُهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَطَالِبِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَمْسِكُوهُنَ ضَرَارًا وَالْحَدِيثُ لَا ضَرُرٌ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحَاكِمُ وَضَعُ لَدْفَعِ الْمُضَارَةِ فِي الْإِيَالَاءِ وَالظَّهَارِ وَهَذَا أَبْلَغُ وَالْفَسْخُ مُشْرُوعٌ بِالْعِيبِ وَنَحْوِهِ“^۲

ترجمہ: ”لیکن اگر شوہر غائب نے اس کے لئے ایسی چیزیں چھوڑی ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنی زندگی برکر سکتے تو وہ موجود شخص کے حکم میں ہے اس لئے کہ اب صرف اس کا جنسی حق ہی فوت ہو رہا ہے اور وہ شوہر کا حق ہے نہ کہ بیوی کا اور اگر ایسا نہ ہو تو عورت کے مطالباً پر قاضی نکاح فتح کر دے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ روکو اور حدیث میں ہے کہ اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا۔ اور قاضی اسی لئے ہے کہ ضرر کا ازالہ کرے جیسے ایلاء اور ظہار میں، اور مذکورہ صورت میں مجبوری بڑھ کر ہے جب کہ فتح نکاح محض عیب وغیرہ کی وجہ سے بھی مشروع ہے۔“

امام احمد کے ہاں وہ شخص جو بالکل لاپتہ نہ ہوتا ہم مہتقر سے غائب ہو اور بیوی کا نفقة ادا نہ کیا ہو تو نفقة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نکاح فتح کرنے کی اجازت ہے۔ اب ظاہر ہے جب ایسے شخص کا نکاح فتح کیا جاسکتا ہے جو لاپتہ نہ ہو تو بالکل لاپتہ شخص کا نکاح توبدرجہ اولیٰ فتح کیا جائے گا۔ دراصل جب مفقود کوئی ایسی جائداد چھوڑ کرنے جائے جس سے عورت کے نفقة کی تکمیل ہو سکے، تو اب مقدمہ کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور معاملہ کی اساس شوہر کی ”مفقود الخبری“ نہیں رہتی بلکہ اس کا نفقة ادا نہ کرنا اصل اور بنیاد قرار پاتا ہے۔ ایسی صورت میں

لے جیسا کہ دارالاقناء امارت شرعیہ بہار اریسہ میں اسی پر عمل ہے۔

۱۔ سبل السلام: ۴/۳۰۷ ۲۔ الاقناع: ۴/۱۱۳

عدم انفاق کی وجہ سے جن شرطوں کے ساتھ نکاح فتح کیا جاتا ہے انہیں کے مطابق یہاں بھی نکاح فتح کر دیا جائے گا۔

لیکن اگر مسئلہ نفقہ کا نہ ہو بلکہ عورت کی عفت و عصمت کا ہو، عورت کہے کہ چار سال انتظار کرنے میں اس کی عفت کے لئے خطرہ ہے اور وہ ایک مدت تک انتظار کے بعد ہی قاضی سے رجوع ہو تو مولا نا اشرف علی تھانوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ قاضی ایک سال انتظار کی مہلت دے کر..... اگر شوہرن آئے تو..... نکاح فتح کرے۔

لیکن چونکہ شریعت نے "ایلاء" کی مدت چار ماہ قرار دی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ عورتوں کو چار ماہ سے زیادہ لذت زن و شوے سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے اس لئے اگر قاضی اپنی صوابدید سے اور حالات و مصالح کو سامنے رکھ کر سال کے اندر ہی عورت کو نکاح ثانی کی اجازت دے دے۔ تو اس کی بھی مخالفش ہونی چاہیے، تاہم اختیاط مولا نا تھانوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی رائے پر عمل کرنے میں ہے۔

مفقود اخیر شخص کی واپسی

اس باب کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت دے دے اور وہ نکاح بھی کر لے پھر مفقود اخیر شخص واپس آجائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ اکثر فقهاء اور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اب وہ عورت اسی "مفقود اخیر" شخص کی بیوی متصور ہو گی البتہ قاضی اسے اختیار دے گا کہ یا تو بیوی کو واپس لے لو یا تم نے جو مہرا دا کیا تھا وہ واپس لے لو، ابو یلیٰ نے حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ کا ایک فیصلہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ سعید بن میتب رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ نے حضرت عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ کی بھی یہی رائے نقل کی ہے اور سہمه بنت عسیر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہَا کے بقول اس کے ایک اسی قسم کے مقدمہ میں حضرت عثمان رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ نے اپنی محصوری کے ایام میں اسی طرح کا فیصلہ فرمایا پھر بتب یہ لوگ اس معاملہ کو حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُ کی خدمت میں لے گئے تو انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا، اس کے علاوہ شعی، ابراہیم تختی اور حضرت عبد اللہ بن زیر رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْہُمْ وغیرہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ امام ابو حیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اس کی بھی یہی رائے ہے اور امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا بھی صحیح تر قول یہی ہے۔

علامہ ابن حزم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اس سے مختلف جن لوگوں کی رائے نقل کی ہے ان میں ایک ربیعہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ہیں ان کے نزدیک اب وہ عورت بہر صورت دوسرے شوہر کی بیوی ہے پہلے شوہر کا اب اس پر

کوئی حق نہیں، چاہے دوسرا شوہر اس سے دخول کر چکا ہو یا بھی نہیں کیا ہو۔ "فلا سبیل للاول ولا رجعة دخل بها اولم يدخل". امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی رائے ہے کہ اگر شوہر اول شوہر ثانی کے دخول کرنے سے پہلے ہی آگیا: تو عورت اس کی طرف لوٹادی جائے گی اور اگر دخول کر چکا ہے تو اب وہ شوہر ثانی ہی کی بیوی ہے اور شوہر اول کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ مفقود انہر شخص اور اسی طرح کے ایک اور معاملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "وَإِن دَخَلَ فَلَا خَوْانَ أَحَقُّ" یہی رائے امام احمد کی بھی ہے اور ربیعہ کی رائے کے مطابق امام شافعی کا قول مروی ہے۔

امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کے پاس موجود ہو اور اس کو طلاق دے دے اور غائبانہ ہی زبانی رجعت بھی کر لے اور بیوی کو طلاق کی اطلاع تو پہنچی لیکن رجعت کی خبر نہ ہوئی اس بنا پر عدت گذرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ صحبت بھی کر لے، اب شوہر اول اس کو لوٹانا چاہے تو اس کا حق حاصل نہ ہوگا یہ حضرت عمر رَضْوَانُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فیصلہ اور ان کا ارشاد ہے۔ "فَإِنْ تَزَوَّجْتَ بَهَا الْآخِرَ فَلَا سبِيلَ لِزِوْجِهَا إِلَّا أَوْلَ الْيَهُ" امام مالک کہتے ہیں کہ میں اس پر مفقود انہر شخص کی بیوی کے مسئلہ کو قیاس کرتا ہوں اور یہی رائے اس میں بھی رکھتا ہوں۔

بعض حضرات نے مفقود انہر شوہر کی واپسی پر عورت کو اس کے حوالہ کرنے کو مردوں کے حقوق کے معاملہ میں مبالغہ قرار دیا ہے مگر جو بات حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رَضْوَانُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فیصلہ جیسے صحابہ سے ثابت ہو۔ اس کے بارے میں اس قسم کی تنقید ناشائستہ ہی کبھی جاسکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے یہ رائے زیادہ قوی ہے اس لئے کہ مفقود انہر شخص کی بیوی کو دوسرے نکاح کی اجازت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ "شوہر اول" مرجکا ہے اب جب کہ شوہر اول مراہی نہیں ہے اور وہ زندہ ہے تو یہ بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ اس لئے اس دوسرے نکاح کو کالعدم ہو جانا چاہیے۔

تاہم چونکہ اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی صراحة ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کے آثار ہیں اور امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اسی سے ملتے ہوئے ایک دوسرے مقدمہ میں حضرت عمر رَضْوَانُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا جو فیصلہ نقل کیا ہے وہ اس کے خلاف بھی ہے اس لئے آثار صحابہ کو بھی اس باب میں متعارض سمجھنا چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے اور مختلف قرآن ہیں جو اس باب میں ریغہ الرأی اور امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے اس دوسرے قول کے حق میں جاتے ہیں جن کو "رحمۃ الاممۃ" میں نقل کیا گیا ہے۔

اول یہ کہ مفقودالخبر شخص کی بیوی مرد کی طرف سے ایک طویل عرصہ "جنی حق" سے محروم رہتی ہے اور جسی حق یعنی جماع سے محروم کرنے کی وجہ سے شریعت جو طلاق واقع کرتی ہے، وہ "طلاق بائیں" ہے۔ جیسا کہ ایلاع سے واضح ہے اس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا اول کی طرف سے اسے "طلاق بائیں" پڑھکی ہے۔ اور اب وہ اس کی بیوی باقی نہیں رہی۔

دوسرے اکثر حالات میں اور ہندوستان میں ۹۵ فیصد مفقودالخبر شخص کی بیوی نفقة سے بھی محروم رہتی ہے اور جو فقہاء مرد کے قصد انفقة ادا نہ کرنے یا ادا میگی نفقة سے عاجز ہونے کی وجہ سے زوجین میں تفریق کی اجازت دیتے ہیں، ان کے یہاں یہ تفریق "طلاق بائیں" کے حکم میں ہوتی ہے، جس میں مرد عورت کا ازدواجی رشتہ یکسر ختم ہو جاتا ہے۔

تیسرا مفقودالخبر شخص اور اس کی بیوی میں علیحدگی "قاضی" کے ذریعہ ہوتی ہے اور غالباً اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سوائے اس صورت کے اور جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں قاضی کی طرف سے ہونے والی تفریق "طلاق بائیں" "یافخ" کا درجہ رکھتی ہے اور قاضی کے منصب اور ولایت کے لحاظ سے بھی مناسب بھی ہے، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں بھی یہ علیحدگی اسی نوعیت کی ہو۔

چوتھے بہت سے فقہاء "نشہ" کی طلاق کو از راہ سزا واقع قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح "مفقوڈالخبر" شخص کی طویل غیبت کی وجہ سے قاضی عورت کو جب دوسرے نکاح کی اجازت دے۔ تو از راہ سزا اس کو دائی اور ناقابل تنفس اجازت کا درجہ دیا جانا چاہیے ورنہ تو اس کو اپنے جرم کی کوئی سزا ہی نہ ملے گی۔ حالانکہ نشہ حقوق اللہ میں تعددی ہے اور بیوی کو چھوڑ کر لاپتہ ہو جانا "حقوق الناس" میں تعددی ہے، اور حقوق الناس کی اہمیت بے اعتبار ادا میگی حقوق اللہ سے زیادہ ہے۔ بلکہ اس صورت میں بات بالکل اللٹی ہو جائے گی، شوہر ثانی جو بیوی کا حق ادا کر رہا ہے اسے جرم بے گناہی کی سزا یہ ملے گی کہ اس کی شریک حیات جدا ہو جائے اور مفقودالخبر شخص کو اپنی تعددی اور ظلم کے باوجود ایک عرصہ تک تمام ذمہ داریوں سے بے تعلق رہنے کے باوجود پھر اس کی بیوی مل جائے۔

ان سب کے علاوہ ہم کو اس مسئلہ پر ہندوستانی سماج کی روشنی میں بھی سوچنا ہوگا، عربوں میں کسی مطلقہ یا بیوہ کا نکاح کوئی مسئلہ نہ تھا اور اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر ہندوستان میں ہندو رسم و رواج سے تاثر کی وجہ سے مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے نکاح یا تعدد ازدواج ایک شاذ و نادر واقعہ بن کر رہ گیا ہے اب ایک تو یونہی کوئی شخص اسی شوہر دیدہ عورت سے نکاح کو بمشکل تیار ہوگا اور اگر اسے یہ خدشہ بھی دامنگیر ہو کہ کسی بھی وقت شوہر اول کی واپسی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد بیوی بھی واپس چلی جائے گی اور اس سے ہونے والی اولاد کا مسئلہ بھی "مسئلہ" بن جائے گا تو کون ہے جو نکاح کے لئے تیار ہو؟ اس لئے اس قسم کی قید کم از کم۔ ہندوستان کے ماحول میں اس

اجازت سے عملہ عورتوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ اس لئے ”مفقودالخبر“ شخص کی بیوی کو قاضی کی طرف سے دوسرے نکاح کی اجازت ناقابلٰ تفسیح ہو گی، اور شوہر اول کا اس پر کوئی حق نہ ہو گا اور اگر وہ اس سے جسی فائدہ اٹھا پکا تھا تو اب اسے ادا شدہ مہر کی طلبی کا بھی وہی حق نہ ہو گا۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب.

غائب غیر مفقود کا حکم

ایسا شوہر جو بالکل لاپتہ نہ ہو، لیکن اس کا کوئی معین پتہ بھی نہ ہو۔ کبھی سنا جاتا ہو کہ وہاں ہے کبھی یہاں ہے لیکن بیوی کے پاس نہ آتا ہو اور نہ نفقة ہی ادا کرتا ہو، اس کو اصطلاح میں ”غائب غیر مفقود“ کہتے ہیں۔ نفقة ادا نہ کرنے اور جنسی حق سے محروم رکھنے کی وجہ سے عورت کے مطالبه پر قاضی اس کا نکاح بھی فتح کر سکتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ اس کے ہاں تو اگر اس کا ایک معینہ پتہ ہو، خطوط بھی آتے ہوں لیکن نفقة نہ دیتا ہو، یا نفقة بھی ادا کرتا ہو لیکن گھر نہ آ کر قصداً عورت کو تکلیف دیتا ہو اور اس کو صفائی تقاضوں سے محروم رکھتا ہو تو بھی قاضی اس کا نکاح فتح کر سکتا ہے:

”وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ يَعْرُفُ خَبْرُهُ وَيَا تِيْ كِتَابُهُ فَلِيُّسْ لَا مَرْأَةَ أَنْ تَنْزُوجَ إِلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ لَا يَتَعَذَّرُ الْوَطَأُ إِذَا لَمْ يَقْصُدْ بِغَيْبَتِهِ إِلَّا ضَرَارَ بِتَرْكِهِ فَإِنْ قَصَدَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ بِهِ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ۔“^{۱۱۳}

ترجمہ: ”جب شوہر کی غیبت ایسی ہو کہ بالکل ہی لاپتہ نہ ہو بلکہ اس کا پتہ معلوم ہو اور خط آتا ہو تو عورت کو حق نہیں کہ دوسرا نکاح کر لے، سوائے اس کے کہ شوہر کے مال میں سے اس کے اخراجات کی تکمیل دشوار ہو جائے اب اس کو فتح نکاح کا حق حاصل ہو گا۔ لیکن حق وطی سے محرومی کی بنا پر نہیں جبکہ غیبت سے وطی چھوڑ کر عورت کو ضرر میں بٹلا کرنا مقصود نہ ہو اور اگر قصداً ایسا کر رہا ہو (یعنی وطی سے محروم کر رہا ہو) تو اگر مرد کا سفر چار ماہ سے زیادہ کا ہو تو عورت کو فتح نکاح کا حق حاصل ہو گا۔“

جب اس صورت میں فتح نکاح کی ممکنائش ہے جب کہ شوہر کا پتہ بھی ہو، تو اگر اس کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ بھاگا بھاگا رہتا ہو تو عورت کو اس کے ظلم اور اس کی طرف سے پہنچنے والے ”ضرر“ سے بچانے کے لئے ”فتح نکاح“ بدرجہ اولیٰ جائز ہو گا۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

زد و کوب اور ظلم و زیادتی کی بناء پر فتح نکاح

میاں بیوی کے تعلقات میں اگر کوئی ناخوشگوار موز آئے تو اس کی اصلاح اور درستگی کی کیا صورت ہو؟ قرآن مجید نے اس پر تفصیلی حنفیتوں کی ہے۔

﴿وَالَّتِي تُخَافُونَ نَشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾^۱
 ترجمہ: ”جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہوان کو سمجھا۔ خوابگاہ میں ان کو الگ کرو اور مرنش کرو۔“

اس طرح اصلاح کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شوہر عورت کو سمجھائے اور پند و موعظت سے کام لے پھر اگر اس کے باوجود عورت اپنی نافرمانی سے باز شد آئے تو اپنی خوابگاہ اور بستر چند دنوں کے لئے اس سے الگ کر لے۔ اگر اس کے باوجود وہ اپنی روشن پر قائم رہے تو معمولی مارپیٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ رسول کریم ﷺ کے مبارک الفاظ میں ”ضرب مبرح“ کی بہر صورت اجازت نہیں ہے۔ ججۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنْقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنْكُمْ أَخْذَتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فِرْوَجَهُنَّ
 بِكَلْمَةِ اللَّهِ وَإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَوْطِئُ فِرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرِهُوهُنَّهُ فَإِنْ فَعَلْنَ
 فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.“^۲

ترجمہ: ”عورت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ذریعہ حاصل کیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی عصمتیں حلال کی ہیں، تمہارا ان پر حق ہے کہ تمہارے بستر کو روند نے نہ دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کر گذریں تو ان کو اس طرح مارو کہ تکلیف وہ نہ ہو اور تمہارے ذمہ ان کے لئے معروف طریقہ پر روزی اور لباس ہے۔“

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ چہرے پر نہ مارے اور گالی گلوچ نہ کرے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ شوہر کے

۱۔ نساء: ۶۔ الحکام القرآن للجصاص: ۹۸، ۹۹:

۲۔ ابن جریر عن حجاج مرسلاً. طبراني عن يهيز بن حكيم

لئے بیوی کی سرزنش کی گنجائش ہے اگر کسی بدجنت نے بیوی کی کسی واقعی غلطی کی بنا پر بھی ایسی تعزیر کی جس سے اس کی موت واقع ہوئی تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ وہ اس کا ضامن ہو گا۔ ”اذا عذر زوجته للزينة اوللا جابة اذا دعاها الى فراشه اولاً جل ترك الصلة او الخروج من البيت فماتت ضمئن“^۵ عام طور پر فقہارے نے چار اسباب کے تحت سرزنش کی اجازت دی ہے، زیبائش و آرائش نہ کرنا، بلانے کے باوجود ہمستری کے لئے بلا عذر آمادہ نہ ہونا، نماز نہ پڑھنا، غسل جنابت نہ کرنا اور گھر سے بلا اجازت نکل جانا۔ لیکن بعض فقہاء کا خیال ہے کہ نماز، غسل اور وہ امور جن کا تعلق خود عورت کی ذات اور آخرت سے ہے۔ ان کی وجہ سے تعزیر درست نہیں، صرف انہی امور کی وجہ سے بیوی کی تعزیر کی جاسکتی ہے جن کا تعلق شوہر کے حقوق سے ہے۔ ”وذکر فی النهاية انه انما يضر بها المنفعة تعود اليه لا لمنفعة تعود الى المرأة الا ترى انه ليس له ان يضر بها على ترك الصلة.“^۶

اسی طرح اگر عورت کے نشووز اور نافرمانی کے بغیر اس کو مار پیٹ کرے تو اب بھی شوہراس کا ذمہ دار ہو گا۔ اور جرم تصور کیا جائے گا امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ مُّنْهَدِّهُونَ کے ہاں شوہر کی اس زیادتی کی بنا پر عورت قاضی کے ہاں مقدمہ کر سکتی ہے اور قاضی ایسی صورت میں شوہر کی مناسب سرزنش کرے گا لیکن اس کی وجہ سے عورت کو طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ مُّنْهَدِّهُونَ کے ہاں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ”فلها التطبيق والقصاص.“^۷

ہندوستان میں!

ہندوستان میں چونکہ نظام عدل مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ان کے پاس ایسی مقتدر قوت نہیں ہے جو ایسے لوگوں کی جسمانی سرزنش کر سکے۔ اس لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس مسئلہ میں مالکیہ رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ مُّنْهَدِّهُونَ کی رائے اختیار کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور امارت شرعیہ بہار اڑیسہ چھلواری شریف پٹنہ میں اسی پر عمل ہے۔

ضرب مبرح

اب ضروری ہے کہ دو باتیں واضح کر دی جائیں۔ اول کہ ”ضرب مبرح“ کا اطلاق کیسی مار پیٹ پر ہو گا؟

لله الفتاوی الہندیہ: ۲/۲۳۶، نیز ملاحظہ ہو: شرح وقایہ: ۲/۳۱، الہدایہ: ۲/۱۶

لله حاشیہ شہاب الدین احمد شلبی علی ہامش تبیین الحقائق: ۳/۲۱۱

لله تبیین الحقائق شرح کنز الدفائق: ۲/۲۱۱ لله حوالہ سابق: ۲/۲۱۲ لله الشرح الصغیر: ۲/۲۱۱

دوسرے اس بارے میں فقہاء مالکیہ کے مسلک اور طریق کا کی تفصیلات کس طرح ہیں؟

ضرب مبرح کے سلسلہ میں علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لکھتے ہیں:

”لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا فِي التَّادِيبِ ضَرِبًا فَاحْشَا وَهُوَ الَّذِي يَكْسِرُ الْعَظَمَ أَوْ يَخْرُقُ الْجَلْدَ أَوْ يَسْوِدُهُ كَمَا فِي الْمَتَارِخَانِيَّةِ.“

تَرْجِيمَهُ: ”مرد کو حق نہیں کہ ادب دینے کی غرض سے عورت کو شدید حد تک زد کوب کرے شدید زد کوب سے مراد اس طرح مارنا ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا سیاہ پڑ جائے جیسا کہ فتاویٰ تاریخانیہ میں ہے۔“

اور تفسیر خازن میں یہی کوشیدہ زد کوب کی نہ مت کی روایات نقل کرنے کے بعد لکھا گیا ہے:

”فِي هَذِهِ الْأَهْدَى دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ الضَّرَبِ لِلنِّسَاءِ فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى ضَرِبِهَا لِلتَّدِيبِ فَلَا يَضْرِبَهَا ضَرِبًا شَدِيدًا وَلَكِنْ ذَالِكَ مُفْرَقاً وَلَا يَبْلُغُ بِالضَّرَبِ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَنْ بَدْنِهَا وَلِيَنْقُولَ الْوَجْهَ لَا نَهْ مُجْمِعُ الْمُحَاسِنِ وَلَا يَبْلُغُ بِالضَّرَبِ عَشْرَةً أَسْوَاطَ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الضَّرَبُ بِالْمَنْدِيلِ وَالْيَدِ وَلَا يَضْرِبُ بِالسُّوطِ وَالْعَصَابِ بِالْجَمْلَةِ فَالْتَّخْفِيفُ بِأَبْلَغِ شَيْءٍ أَوْلَى فِي هَذَا الْبَابِ.“

تَرْجِيمَهُ: ”پس ان احادیث میں دلیل ہے کہ عورتوں کو مار پیٹ نہ کی جائے پھر اگر ادب دینے کے لئے یہ ضروری ہی ہو جائے تو شدید زد کوب نہ کرے مختلف جگہوں پر مارے، مسلسل بدن کے کسی ایک ہی حصہ پر نہ مارے، چہرے پر مارنے سے احتراز کرے اس لئے کہ وہ محاسن کا مظہر ہے۔ مارنے کی مقدار دس کوڑوں تک نہ پہنچادے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ باதھ اور رومال سے مارے۔ لاثی اور کوڑے سے نہ مارے۔ مزا میں آخری درجہ تخفیف اس معاملہ میں بہتر ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ:

چہرہ پر مارنا۔

ایک ہی مقام پر مسلسل مارنا۔

اس طرح مارنا کہ جسم پر نشان پڑ جائے یا سیاہ ہو جائے۔ یا چہرہ پھٹ جائے اور خون نکل آئے، یا ہڈی ٹوٹ جائے۔

کوڑے اور لاثی سے مارنا۔

یہ سبھی ”ضرب مبرح“ میں داخل ہیں۔ اور پیٹ، سینہ دماغ اور جسم کے ایسے حصوں پر مارنا جو طبی اعتبار سے

خاص نزاکت کے حامل ہوں، بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہوں گے۔

فقہ مالکی کی تفصیلات

فقہ مالکی کی تفصیلات اس طرح ہیں:

اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شوہرنے بیوی کو تکلیف دہ حد تک اس کی غلطی پر مارا ہے یا کسی سبب شرعی کے بغیر مارا ہے یا لعن طعن کیا ہے اور برآ بھلا کہنا ہے تو چاہے یہ بات ایک ہی بار کیوں نہ پیش آئی ہو اور بار بار اس کا محکم نہ ہوا ہو پھر بھی اگر عورت تفرقی کی خواہاں ہو تو قاضی تفریق کر دے گا ”(وتعدیہ) ای الزوج علی الزوجة بضرب لغير موجب شرعی او سبب کلعن ونحوه وثبت بیینہ او اقرار (ولها التطليق) بالتعدی اذا ثبت (وان لم يذكر التعدي منه عليها).“

اور اگر عورت کا مطالبہ طلاق کا نہ ہو بلکہ مصالحت اور اصلاح حال چاہتی ہو تو قاضی سمجھائے، اس سے کام نہ چلے تو ڈانٹ کر فہماش کرے اس سے بھی اصلاح نہ ہو سکے اور مناسب سمجھے تو مار کر سرزنش کرے ”(زجرہ الحاکم بوعظ فتهذید) ان لم ينجزر بالوعظ (فضرب إن أفاد) الضرب ای ظن إفادته والإفلا، وهذا إن اختارت البقاء معه۔“

اگر عورت مرد کی ظلم و زیادتی کی مدعا ہو اور معاملہ ثابت نہ ہو سکے، یا زوجین ایک دوسرے کی زیادتی کا دعویٰ کر رہے ہوں اور قاضی صحیح نتیجہ تک نہ پہنچ سکے تو حکم دے کہ زوجین ایسے محلہ اور ایسے لوگوں کے درمیان رہیں جو مصالح اور شریف ہیں تاکہ ان کے ذریعہ نشاندہ ہو سکے کہ زوجین میں سے کس کی زیادتی ہے۔ پھر اس کی روشنی میں قاضی فیصلہ کرے، بہ شرطیکہ پہلے سے وہ ایسے لوگوں کے درمیان رہائش پذیر نہ ہوں۔ ”و إن أشكـل أـسـكـنـهـاـ بـيـنـ صـالـحـيـنـ إنـ لـمـ تـكـنـ بـيـنـهـنـ.“

لیکن اگر اس کے باوجود زوجین میں نزاع باقی رہے اور قاضی کے یہاں ایک فرقی کی زیادتی ثابت نہ ہو سکے تو وہ دو حکم متعین کریں جو اس بات کے مجاز ہوں کہ اتفاق رائے سے مصالحت کرادیں۔ یا تفرقی کرادیں۔ یا ضلع کی صورت اختیار کریں۔

ثُرَ بَعْثَ حَكْمِيْنَ مِنْ أَهْلَهَا بَلْ

سلہ الشرح الصغیر: ۵۱۲/۲. حکم کے سلسلے میں تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو، اس کتاب کا مقالہ خلع میں قاضی حکم کے اختیارات۔ بیوی کی تادیب کے شرعی اصول و احکام کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ ”چند اہم مسائل بدلتے ہوئے حالات دیا جوں میں“ تصنیف: مولانا مجید الاسلام قاسمی۔

امراض و عیوب کے باعث فسخ نکاح

یوں تو مرض اور بیماری زندگی کا ساتھی ہے۔ تاہم بعض امراض ایسے ہیں جو اپنے تکلیف دہ اور متعدد اثرات کی وجہ سے لوگوں کے لئے قابل نفرت ہو جاتے ہیں یا ان کی وجہ سے مرد و عورت کے درمیان یا توازن دو اجی ملاپ ممکن نہیں ہوتا یا اس میں دلچسپی اور رغبت باقی نہیں رہتی۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایسے امراض کی وجہ سے زوجین کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ دوسرے فریق کی بیماری اور عیب کے باعث قائم نکاح کا مطالبہ کریں یا اس کا حق حاصل نہیں ہو گا؟

یہ سوال خود اپنے اندر کئی شق رکھتا ہے اور جب تک ان کی وضاحت نہ ہو جائے اس کے بارے میں فقهاء کی رائیں واضح نہیں ہو سکتیں۔

- ❶ شوہر یا بیوی میں عیب پہلے سے تھا، لیکن نکاح سے پہلے دوسرے فریق کو آگاہ نہیں کیا گیا، نیز نکاح کے بعد اپنی زبان یا عمل کے ذریعہ دوسرے فریق نے رضامندی ظاہر نہیں کی۔
 - ❷ عیب پہلے سے تھا اور دوسرا فریق اس سے بے خبر تھا نکاح کے بعد جب باخبر ہوا تو اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کروی۔
 - ❸ نکاح کے بعد شوہر میں عیب پیدا ہوا۔
 - ❹ نکاح کے بعد بیوی میں عیب پیدا ہوا۔

فقہاء کی رائیں

اصحاب طواہر کے نزدیک ان تمام صورتوں میں زوجین میں سے کسی کو بھی فتح نکاح کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہے، یہی رائے ابن حزم کی ہے۔ امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَعُلَّانَ کے نزدیک اگر شوہر نامرد یا مقطوع الذکر ہو تو پہلی صورت میں عورت فتح نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے اور تیسری صورت میں بھی اس وقت اس کو یہ حق حاصل ہو گا جب کہ مرد نے ایک دفعہ بھی جماع نہ کیا ہو۔

اس کے سوا اور کسی صورت میں نکاح فتح نہیں کیا جاسکتا۔ امام شافعی اور امام احمد رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے ہاں

دوسری صورت کے ساتھ تمام صورتوں میں جو فریق اس عیب سے پاک ہو وہ دوسرے فریق سے فتح نکاح کا مطالبہ کر سکتا ہے امام مالک رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِالْعِلْمِ کے ہاں چوتھی صورت میں بھی جب کہ عورت کے اندر نکاح کے بعد عیب پیدا ہوا ہے۔ مرد فتح نکاح کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ طلاق دے کر عورت سے نجات حاصل کر سکتا ہے، البتہ پہلی صورت میں میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اور تیسری صورت میں بیوی کو حق حاصل ہو گا کہ وہ فتح نکاح کا مطالبہ کرے۔

امام محمد رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِالْعِلْمِ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مرد تو کسی بھی صورت میں فتح نکاح کا مطالبہ نہیں کر سکتا، البتہ عورت پہلی صورت میں بھی جب کہ وہ شوہر کی بیماری سے لعلم رہی ہو مطالبہ کر سکتی ہے اور تیسری صورت میں بھی جب کہ یہ مرض پیدا ہوا ہے۔

امراض و عیوب

اب مناسب ہو گا کہ ان امراض و عیوب کا بھی ذکر کر دیا جائے جو "علی اختلاف الأقوال" مختلف فقهاء کے نزدیک فتح نکاح کا باعث ہیں، فقهاء نے ان عیوب کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ جو مرد و عورت کے درمیان مشترک ہیں، وہ جو مردوں کے لئے مخصوص ہیں، اور وہ جو عورتوں کے لئے مخصوص ہیں۔

پہلے قسم کے امراض یہ ہیں:

① جنون.....(پاگل پن)

② جذام.....(کوڑھ)

③ برص، سفید ہو یا کالا.....(سفید و سیاہ داغ)

④ غذیطہ.....(کہ مرد یا عورت کو جماع کے وقت پائخانہ نکل آئے۔ علامہ دردیر مالکی نے اسی حکم میں اس کو بھی رکھا ہے جس کو پیشتاب نکل آئے۔)

دوسرے قسم کے امراض یہ ہیں:

① خصاء.....(مرد کے فوطوں کی گولیاں نکال دینا)

② جب.....(مرد کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو)

③ عذت.....(نا مرد ہونا)

④ اعتراض.....(مرد کے عضو تناسل میں ایستادگی نہ ہو)

سلہ رحمة الامم: ۲۷۴۔ کتاب الفقه علی المذاہب الاربعة: ۱۸۰/۴

سلہ الشرح الصغير: ۴۶۷/۲۔ سلہ البحر الرائق: ۱۲۶/۴

تیرے قسم کے امراض یہ ہیں:

① قرن.....(ایک بیماری جس میں عورت کی شرمگاہ میں ہڈی نکل آتی ہے اور اس سے ہمستری دشوا رہو جاتی ہے)

۲) رق.....(اندام نہیں پر گوشت کا ایسا مکڑا ہو جائے کہ جماع نہ کیا جاسکے)

۳) عقل.....(یہ بھی ایک زائد گوشت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنی تنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ جماع نہیں کیا جاسکتا!

۳) افضاء.....(جماع کی کثرت کے باعث ہمبستری اور پاکخانہ کے راستوں کامل جانا)

۵۔ بخ..... (شرمگاہ یا بغل یامنہ سے بدبو آتا)۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سمجھی عیوب کسی نہ کسی صورت میں فتح نکاح باعث کا قرار پاتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ”جب“ اور ”عنت“ موجب فتح ہے۔ امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جنون، برص، اور جذام بھی ان اسباب میں سے ہیں۔ جن کی بناء پر عورت فتح نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے جب کہ حافظ ابن قیم کے ہاں اس مسئلے میں بڑا توسعہ نظر آتا ہے۔

ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة وأما الاقتصار على عبيدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه له فالعمى والزمن والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما من أعظم المنفات.

ترجمہ: ”جس نے شریعت کے مقاصد اس کے مصادر و مآخذ۔ اور اس کے مزاج عدل و حکمت پر اور جن مصلحتوں کو وہ شامل ہے اس پر غور کیا ہوگا، اس پر اس قول (عیوب کی وجہ سے فتح نکاح) کا راجح ہونا مخفی نہیں رہ سکتا اور یہ بات کہ یہ شریعت کے اصول سے قریب ہے..... اور دو، تین یا چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، عیوب یا اس سے بڑھ کر یا اس کے مساوی قسم کے عیوب کی تحدید کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لئے کہ ناپینا، گونگا..... دونوں ہاتھ یا پاؤں یا ایک کا کٹا ہوا ہونا بھی سخت نفرت کا باعث ہو سکتا ہے۔“

سلہ ان امراض کی وضاحت اکثر کتب فقہ میں موجود ہے۔ میں نے "البحر الرائق" (۱۲۶/۴)، رحمة الامة (۲۷۴) اور الشرح الصغير

سلسلة سلامة شرح بلوغ المرام: ١٣٤ / ٢٤٧ تا ٤٦٩ سے پایا ہے۔

ابن حزم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے دلائل

اب ذرا ان فقہاء کے دلائل پر بھی ایک طارانہ نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ایک نکاح صحیح طور پر پایہ تکمیل کو پہنچ پکائے تو اس کے فتح کئے جانے کے لئے کوئی شرعی دلیل درکار ہے جو صحیح بھی ہو، دوسری طرف عیوب کی وجہ سے فتح نکاح کی بابت جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔

”وَمَا الرَّوَايَةُ عَنْ عُمَرٍ وَعَلَى فَمِنْقَطَعَةٍ وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ لَا خَيْرَ فِيهَا“، ابن حزم نے استدلال میں حضرت رفاعة کی یوں کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے شوہر کی قوت مردی کے بارے میں عیوب کی شکایت کی تھی کہ ان کا محض کپڑے کے جمال کے مانند ہے اس کے باوجود آپ نے تفریق نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ تم اپنے پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتیں جب تک کہ اس شوہر کا شہد نہ چکھ لے، یعنی ہمسر نہ ہو لو اگر عیوب کی وجہ سے تفریق کی مجنحائش ہوتی تو حضور ﷺ تفریق کر دیتے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کا اس روایت سے استدلال محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ امرأۃ رفاعة نے اپنے دوسرے شوہر سے فتح نکاح کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے شوہر نے تو ان کو طلاق دے ہی دی تھی، بلکہ وہ یہ دریافت کرنا چاہتی تھیں کہ کیا اب وہ اپنے سابق شوہر حضرت رفاعة کے لئے جوان کو تین طلاق دے چکے تھے، حلال ہو گئیں اور اب وہ ان کے نکاح میں جا سکتی ہیں۔ حالانکہ دوسرے شوہران سے صحبت کرنے پر قادر نہ ہو سکے؟ اور اس کی دلیل موطا امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی روایت ہے کہ ”ان رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وہب فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبیر فاعتراض عنہا فلم یستطع ان یمسها ففارقہا فاراد رفاعة ان ینکحہا وہ زوجہا الا ول فی روایة فطلقہا۔“^{۱۱۴/۱۰}

جمهور کے دلائل

جمهور فقہاء کا استدلال ایک تو اس واقعہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ غفار کی ایک خاتون سے نکاح فرمایا۔ جب وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور اپنے بعض کپڑے اتارے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے پہلو پر برص کا سفید داغ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنا کپڑا پہن لو اور اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ ”تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالية من بنی غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها لـ المعلمی: ۱۱۴/۱۰۔“^{۱۱۴/۱۰} حوالہ سابق شہزادہ مبلغ المرام، موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ: ۲۶۴، ط دیوبند۔

فرای بکشحها بیاضا فقال ثیابک والحقی باهلك^{لہ}۔ اس روایت سے معلوم ہوا کے مرد کو عیب کی بناء پر یہوی سے ہونے والا نکاح کا عدم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا جب شوہر کو یہ حق ہوگا جس کو طلاق دینے کا اختیار بھی ہے تو یہوی کو بدرجہ اوٹی ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ طلاق دیکر اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا اختیار بھی نہیں رکھتی۔

دوسرے نامردی اور شوہر کے مقطوع الذکر ہونے کی صورت میں اصحاب ظواہر کے ساتھ امت کا اتفاق ہے کہ عورت کے مطالبه پر اس کا نکاح فتح کر دیا جائے گا۔ نامردی بھی ایک عیب اور بیماری ہے جس کی وجہ سے مرد جماع نہیں کر سکتا۔ برص، جذام وغیرہ بھی ایک عیب اور بیماری ہے جس کی وجہ سے جماع سے طبیعت نفور کرتی ہے، اس لئے ان بیماریوں کا بھی بھی حکم ہونا چاہیے۔

تیسرا وہ نکاح کو معاملہ خرید و فروخت پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح بیع میں عیب اور نقص کی بناء پر سودا (بیع) واپس کیا جاسکتا ہے، اسی طرح نکاح میں بھی عیب کی وجہ سے نکاح کو مسترد کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ دونوں ہی لین دین کا معاملہ (عقد معاوضہ) ہے۔ بیع میں ثمن اور بیع کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے اور نکاح میں ”ہر“ اور عورت کی عصمت کا ایک دوسرے سے تبادلہ کیا جاتا ہے۔

البتہ جمہور نے جوان ۱۳ امراض کو ہی عیب شمار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جنون، برص اور جذام کے علاوہ تمام وہ امراض شامل ہیں جن کا تعلق شرمگاہ اور جنس سے ہے اور حضرت علی و حضرت عمر رضوی اللہ عنہما عن علی سے مروی ہے کہ چار ہی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے عورتیں رد کر دی جائیں گی۔ جنون، جذام، برص اور شرمگاہ کی بیماریاں ہیں۔ ”لَا تردد النساء الامن أربع من الجنون والجذام، والبرص والداء في الفرج.“..... اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ ”أربع لا يحزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجدومة والبرصاء والعلاء.“^{لہ}

جمہور کے دلائل پر ایک ناقدانہ نظر!

جمہور کے دلائل میں حقیقت یہ ہے کہ صرف دوسری دلیل بے غبار ہے کہ جب عمنی ہونے کی وجہ سے تفریق کی جاسکتی ہے تو ان امراض کی وجہ سے بھی تفریق کی جانی چاہیے جو کسی وجہ سے باہمی جنسی تسلیم میں حارج بنتے ہوں اور باعث نفور ہوں رہ گیا حضور ﷺ کے قبیلہ بنو غفار کی ایک خاتون سے نکاح کا واقعہ۔ تو اول تدوہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے اس روایت کو کعب بن عجرہ سے زید بن کعب اور زید بن کعب سے جمیل بن

لہ مسند احمد بن حنبل: ۴۹۳/۲، عن کعب بن زید اور زید بن کعب۔

لہ سبل السلام: ۱۳۴/۱ صحنانی کو اعتراف ہے کہ حضرت علی و عمر کا اثر ایسی سند سے منقول ہے جس میں انقطاع ہے البتہ ابن عباس کا اثر اسناد گیہے“ سے مروی ہے، مگر ان حزم اس روایت کی سند کے بارے میں کہتے ہیں۔ ”لآخر فیہ“

زید نقل کرتے ہیں یہ جمیل بن زید متروک ہیں۔ محدثین نے ان سے روایت قبول نہیں کی ہے اور زید بن کعب مجہول ہیں۔ کعب کے کوئی صاحب زادہ اس نام سے معروف نہیں ہیں۔ دوسرے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: ”الحقی باهلك“ (اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جا) یہ لفظ طلاق کے لئے بھی مستعمل ہے۔ عین ممکن ہے حضور ﷺ نے طلاق دے دی ہو۔ اس لئے اس سے زیادہ آپ کا طلاق دیا جانا ثابت ہو سکتا ہے، عیب کی بنا پر نکاح کو رد کر دینا ثابت نہیں ہوتا اسی طرح ”نکاح“ کو ”بع“ کی نظر قرار دینا بھی قابل غور ہے۔ ابن حزم نے اس پر مفصل تقدیم کی ہے اور معاملہ نکاح اور معاملہ خرید و فروخت کا فرق واضح کیا ہے، تاہم اس قدر تو بالکل واضح ہے کہ ”بع“ توہر قسم کے عیب کی وجہ سے رد کی جاسکتی ہے۔ جب کہ نکاح کے بارے میں کوئی بھی یہ رائے نہیں رکھتا کہ ہر چھوٹے بڑے عیب اور نقص کی وجہ سے نکاح فتح کیا جاسکتا ہے۔

ترجح

اس لئے واقعہ ہے کہ اس مسئلہ میں سب سے معتدل، متوازن اور قابل عمل رائے امام محمد کی ہے، یعنی مرد کو تو نکاح مسٹر کرنے کا حق نہیں ہوگا اس لئے کہ ”طلاق“ کی صورت اس کے پاس ایک راہ نجات موجود ہے۔ وہ طلاق دے کر بیوی سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے، حضرت علیؓ کے ایک اثر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، آپؓ نے فرمایا: ”أَيْمَارِجُلْ تَزُوْجْ إِمْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءً أَوْ بِرَصَاءً أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَهِيَ إِمْرَأَةٌ إِنْ شَاءَ طَلَقْ وَإِنْ شَاءَ أَمْسِكْ“..... ہاں اگر مرد کسی عیب میں بتلا ہو تو عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ فتح نکاح کا دعویٰ دائر کرے، یہی رائے مشہور تابعی حضرت سعید بن میتبؓ سے بھی منقول ہے۔ ”إِمْرَأَةٌ تَزُوْجْتْ رَجُلًا بِهِ جَنُونٌ أَوْ ضَرْرٌ فَإِنَّهَا تَخِيرٌ فَإِنْ شَاءَتْ قَرْنٌ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ“^۱ حضرت علیؓ سے مردی کے متعلق مذکور ہے کہ کوئی مجنون قسم کا آدمی اپنی بیوی سے کھلیے یا اس کو ضرر پہنچائے، تو شوہر کا ولی بیوی کو طلاق دے دے۔ ”إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِإِمْرَأَتِهِ طَلَقْ عَلَيْهِ وَلِيَهُ“^۲ قاضی بھی ولی ہوتا ہے۔ اگر یہاں ”ولی“ سے ”قاضی“ مراد لے لیا جائے، تو یہ اثر بھی امام محمد کے حق میں جاتا ہے۔

متاخرین احناف کا عمل

چونکہ امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَلُكُ اَسْمَلَكَ اس مسئلہ میں شریعت کی روح و مزاج سے قریب بھی ہے اور لئے ابن حزم کہتے ہیں: هذا من روایة جمیل بن زید وهو متروک جملة عن زید بن کعب وهو مجہول لا يعلم لکعب بن عجرة ولدا سمه زید (المحلی: ۱۱۵/۱۰) اور صنعتی لکھتے ہیں: وفي اسناده جمیل بن زید وهو مجہول واختلف عليه في شیخه اختلافاً كثیراً (سبل السلام: ۱۳۴/۱۰)

مصلحت عامہ کے مطابق بھی اس لئے بعد کو فقهاء احتجاف نے بھی امام محمد ہی کی رائے پر فتویٰ دیا ہے، فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ ”إِنَّ كَانَ الْجَنُونَ حادثًا يُؤْجِلُهُ سَنَةً كَالْعُنَةِ وَ إِنْ كَانَ مُطَبِّقًا فَهُوَ كَالْجَبْ وَ بِهِ نَاخِذٌ“۔ علامہ ابن حکیم مصری نے لکھا ہے کہ اگر قاضی عیوب کی بنابر اپروناکح کا فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو گا۔ ”أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِرَدِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِعِيبٍ نَفْذٌ قَضَاءُهُ“۔^۱

عام طور پر مصنفین نے یہی نقل کیا ہے کہ امام محمد صرف جنون جذام اور برص کی بیماریوں ہی میں فتح نکاح کی اجازت دیتے ہیں لیکن بعض مصنفین کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کے ہاں اس مسئلہ میں توسع ہے، چنانچہ فخر الدین زیلیعی کہتے ہیں۔

”وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَرَدَّ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ عِيبٌ فَاحْشَ بِحِيثُ لَا تَطْبِقُ الْمَقَامُ مَعَهُ لَا نَهَا تَعْذِرُ عَلَيْهَا الْوَصْولُ إِلَى حَقِّهَا الْمَعْنَى فِيهِ فَكَانَ كَالْجَبْ وَالْعُنَةِ.“^۲
 ترجمہ: ”امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ“ کہتے ہیں کہ اگر مرد میں کوئی ایسا کھلا ہوا عیوب ہو کہ اس کے باوجود اس کے ساتھ رہانہ جا سکتا ہو تو، عورت نکاح رکھ سکتی ہے، اس لئے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے لئے اپنا حق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس طرح اب یہ محبوب اور نامرد ہونے کے حکم میں ہو گا۔“

”خَلُوَهُ مِنْ كُلِّ عِيبٍ يُمْكِنُهَا الْمَقَامُ مَعَهُ إِلَّا بِضَرُرِ كَالْجَنُونِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرْصِ شَرْطٌ لِزُورِ النِّكَاحِ حَتَّى يُفْسَحَ بِهِ النِّكَاحُ.“^۳
 ترجمہ: ”امام محمد کے نزدیک نکاح لازم ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ ایسے عیوب سے خالی ہو جن کے پائے جاتے ہوئے وہ ضرر کے بغیر مرد کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے فتح نکاح کر دیا جائے گا۔“

اس لئے اول تو خود امام محمد کے یہاں صرف جذام، جنون اور برص کی بیماریوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ وہ تمام بیماریاں موجب فتح ہیں جن کی موجودگی میں مرض کے متعدد اور قابل نفرت ہونے کے باعث زوجین کا ایک ساتھ رہنا دشوار ہو جائے اور اگر امام محمد کی رائے ایسی نہ بھی ہو، تو بھی مصلحت شرعی کے تحت متاخرین کو اس مسئلہ میں توسع سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ طحطاوی نقل کرتے ہیں: ”وَالْحَقُّ بِهَا الْقَهْسْتَانِيُّ كُلُّ عِيبٍ لَا يُمْكِنُ الْمَقَامُ مَعَهُ إِلَّا بِضَرُرٍ.“^۴

سلہ الفتاویٰ الہندیہ: ۱۳۴/۲ ش. البحر الرائق: ۱۲۷/۴ ش. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: ۴۵/۳

ش. بدائع الصنائع: ۲۲۷/۲ ش. طحطاوی: ۲۱۲/۲

خلاصہ بحث

اس لئے ہمارے زمانے میں ان تین امراض کے علاوہ دوسرے تمام تکلیف دہ متعدد اور قابل نفور امراض بھی موجب فتح ہیں اور عورت ان کی وجہ سے فتح نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جیسے سوزاک، آتشک وغیرہ..... البتہ اس حق کا استعمال وہ اس وقت کر سکتے گی جب کہ خود عورت اس مرض میں بستانہ ہو۔

نکاح سے پہلے وہ اس سے باخبر نہ ہو۔

پھر نکاح کے بعد اس سے مطلع ہو جانے کے باوجود اس نے اپنی رضا مندی کا صریح اظہار نہ کیا ہو جیسا کہ نامرد کے مسئلہ میں ہے یا یہ کہ نکاح کے بعد یہ امراض پیدا ہونے ہوں۔

علامہ دردیر ماکنی کے الفاظ میں:

”اذا لم يسبق علم بالعيوب قبل العقد فان علم بالعيوب قبل العقد فلا خيار له ولم يرض بالعيوب حال اطلاعه عليه واما ما حدث منها بعد العقد فان كان بالزوجة فلا رد للزوج به وهو مصيبة نزلت به وان كان بالزوج فلها رده برص وجذام وجنون لشدة الا يلام وعدم الصبر عليها.“^۱

ترجمہ: ”جب کہ عقد سے پہلے عیوب کا علم نہ ہو۔ اگر پہلے سے معلوم ہو تو اب مرد کو خیار حاصل نہ ہوگا اور نہ عیوب پر مطلع ہونے کے بعد راضی رہا ہو..... اور وہ عیوب جو نکاح کے بعد پیدا ہوا ہے تو اگر یوں کو ہے تو شوہر کو نکاح رد کرنے کا حق نہیں اس کے لئے من جانب اللہ ایک آزمائش ہے اور اگر شوہر کو ہو تو یوں برص، جذام اور جنون کی وجہ سے رد کر سکتی ہے، چونکہ اس میں سخت ایذاء ہے اور صبر نہیں کیا جاسکتا۔“^۱

”وان كان مصاباً بمثله فقال اللخمي إن كانا من جنس واحد فان له القيامر.“^۱

ترجمہ: ”اگر زوجین میں دوسرے فریق کو بھی اس کے مثل عیوب ہو تو تمgi کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی طرح کے عیوب ہوں تو اس کو دوسرے فریق کے ساتھ ہی قیام کرنا ہوگا۔“^۱

البتہ جنون میں اس قدر تفصیل ہے کہ فقهاء نے جنون کی دو قسمیں کی ہیں۔

”جنون مطین“ اور ”جنون غیر مطین“ جنون مطین یہ ہے کہ جنون ہر وقت رہتا ہو اور آدمی مستقل پا گل ہو۔

ایسی صورت میں قاضی فی الفور نکاح فتح کر دے گا اور ”جنون غیر مطلق“ یہ ہے کہ وقہ و وقفہ سے جنون کا دورہ پڑتا ہوا یہ مریض کو ایک سال علاج کے لئے مہلت دی جائے گی، اگر اس کے باوجود وہ صحت مند نہ ہو تو پھر نکاح فتح کر دیا جائے گا۔



نامردی اور جنسی حق سے محرومی کی بناء پر فسخ نکاح

بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم ترین حق اس کے جنسی تقاضوں اور خواہشات کی تکمیل ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ذمہ اولین حق ہے اور نکاح کا مقصود یہی ہے، اسی لئے قرآن مجید نے ”نکاح شدہ مرد و عورت“ کو محضنہ اور محضنہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی قلعہ بند کے ہوتے ہیں۔ گویا نکاح عفت و عصمت کا ایک محفوظ قلعہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جنسی مlap کو حلال اور جائز کر کے نفسانیت کے تمام چور دروازوں سے ان کو محفوظ و مامون کر دیتا ہے۔

اسی بناء پر قرآن مجید نے ”ایلاء“ کو ایک گناہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے چار ماہ نہ ملنے کی قسم کھالے اور اس مدت کے اندر وہ رجوع نہ کرے اور بیوی سے ہمستر نہ ہو تو رشتہ نکاح باقی نہ رہ سکے گا۔ شیخ عبدالرحمٰن الجزیری نے اس کی حکمت ان الفاظ میں لکھی ہے:

”وَمِنْ هَذَا يَتَضَعَّفُ إِلَّا يَلِاءُ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَضْرَارِ بِالمرأةِ بِالْهِجْرِ وَتَرْكِ
مَا هُوَ ضُرُورٌ لَازِمٌ لِلطَّبَاعِ الْبَشَرِيِّ وَإِجَادِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَحِرْمَانِهِ مِنِ الْلَّذَّةِ
أَوْ دُعْهَا اللَّهُ فِيهَا.“^۱

تَرْجِمَة: ”اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایلاء حرام ہے اس لئے کہ اس میں عورت کو چھوڑ کر اور اس چیز کو چھوڑ کر جو انسانی فطرت کے لئے ضروری ہے..... اور نوع انسانی کی تخلیق میں داخل ہے۔ بیوی کو ضرر پہنچانا اور اس کو اس لذت سے محروم رکھنا ہے جس کو اللہ نے اس میں وریعت کیا ہے۔“

اس طرح بیوی سے جنسی تعلقات ترک کرنے (هجر فی المضاجع) کو ایک سرزنش کی حیثیت دی گئی اور ناشرہ نافرمان عورت کے لئے وقت طور پر ایسی سزا کی اجازت دی گئی۔

اسی بناء پر عام فقہاء نے بھی (بعض لوگوں کو مستثنی کر کے) اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر شوہر نامرد ہو

اور ایک دفعہ بھی بیوی سے نہ مل سکا ہوا اور عورت مطالبہ کرے کہ اس کا نکاح اس مرد سے فتح کر دیا جائے، تو قاضی اس کا نکاح فتح کر دے گا۔ لیکن اس کے لئے جو شرطیں ہیں ان میں فقہاء کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ لَتَعَالَى کے ہاں ضروری ہے کہ عورت پہلے سے اس کی نامردی سے واقف نہ ہو۔ "ان لا تكون عالمة به قبل الزواج" اور "اگرنا واقف تھی تو نکاح کے بعد اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ گی کا صرٹ اظہار نہ کیا ہو، ہاں اگر رضامندی کا اظہار کئے بغیر بھی ایک عرصہ تک شوہر کے ساتھ خاموشی سے وہ اپنے دن گزارتی ہے تو اس کا حق ختم نہ ہوگا، اور اس کو حق حاصل رہے گا کہ قاضی کی طرف رجوع کرے۔ "ولا یسقط

حق المرأة بسكتها بعد علمها زمانا طويلا حتى ولو كانت مقيمة معه وتضاجعه.“^{۱۰}
امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ لِأَعْلَمُ کے ہاں یہ دو شرطیں تو ہیں، ہی اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی ہے کہ اگر اس نے عمل ارضامندی کا اظہار کر دیا مثلاً نکاح کے بعد شوہر کو اپنے نفس پر قدرت دیتی رہی تب بھی اس کو فتح کا مطالیہ کرنے کا حق حاصل نہ رہے گا۔ ”وَكَذَا إِذَا رَضِيَ بِهَا صَمْنَابَانْ مَكْنَتَهُ مِنْ نَفْسِهَا إِنْ كَانَ الْمَعِيبُ الرَّوْجُ.“^{۱۱}

امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَعَالَى کے یہاں اگر عورت پہلے سے مرد کے عنین ہونے سے واقف ہو پھر نکاح کر لے تب بھی اس کو مطالبة طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ ”ولا یشترط عدم علم الزوج بالعنۃ قبل العقد فلو كانت عالمة بها فلها حق الفسخ“ اسی طرح نکاح کے بعد عورت جب تک اپنے نامرد شوہر کے ساتھ رہنے پر صراحةً رضامندی ظاہرنہ کر دے تو عورت کو مطالبة طلاق کا حق حاصل ہوگا جیسا کہ احناف کی رائے ہے۔ ”إذا علمت بالعنۃ بعد الدخول وسكتت بدون أن تصرح بالرضاء فانه لا يسقط حقها“

پہلے سے نام روئی سے پا خبر ہو

رقم المحرف کا خیال ہے کہ اس مسئلہ پر حالات زمان اور شریعت کی اصل روح اور اپرٹ کو پیش نظر رکھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے نکاح کا اصل اور بنیادی مقصد ہی ایک دوسرے کی جنسی تسلیم ہے، اگر ایک عورت نکاح سے پہلے ہی نامرد کے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر کر دے اور یہ اقرار اس کے باوجود ہو کہ خود اس کے اندر جماعت کی فطری صلاحیت اور خواہش بھی موجود ہو، ایسا نہیں کہ کسی مرض یا درازی عمر کی وجہ سے وہ اس قابل ہی نہ رہی ہو تو اس کی رضامندی کے باوجود بھی نکاح کے بعد اس کو فتح کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ایک حد تک ایسی ہی بات ہے کہ عورت نکاح سے پہلے ہی اپنا مهر معاف کر دے یا مرد اسی شرط پر نکان کرے کہ

عورت کا کچھ مہر، نہ ہوگا تو ایک معافی اور شرط کا کچھ اعتبار نہ ہوگا اور نکاح کے بعد بہر حال اس کا مہر واجب ہو کر رہے گا۔ مہر جو ایک مالی حق ہے وہ اس طرح ختم نہیں ہو جاتا تو جنسی حق تو اس سے بھی بڑھ کر ہے اور اس سے محروم کر دینا اس سے کہیں زیادہ ضرر اور فتنہ کا باعث ہے۔

پھر اس کا قابل لحاظ پہلو یہ ہے کہ فقهاء کے ہاں عنین (نامردی) کی کوئی بے پک تعریف نہیں کی گئی ہے، ممکن ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے حق میں نامرد ہو اور دوسری کے حق میں نہ ہو۔

”وَمَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ مِنْ لَا يَصْلُ الى النِّسَاءِ مَعَ قِيَامِ الْاَلَّةِ لِمَرْضِ بَهْ وَانْ كَانَ يَصْلُ الى الثِّبَابِ دُونَ الْبَكْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ دُونَ بَعْضٍ سَوَاءٌ كَانَ آتَهُ تَقْوِيمٌ وَلَا.“^۱

نتیجہ: ”فقہاء کے نزدیک نامردہ ہے جو آلہ تناصل موجود ہونے کے باوجود عورتوں سے کسی بیماری کے سبب نہیں مل سکے، گوشہ دیدہ سے ہم آغوش ہو جائے اور کنواری سے نہ ہو سکے یا بعض عورتوں سے ہو اور بعض سے نہ ہو سکے اور چاہے اس کا عضو تناصل کھڑا ہو یا نہ ہو“ (ہر حال میں وہ نامرد سمجھا جائے گا)

جب یہ بات ممکن ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے حق میں نامرد ہو اور دوسری کے حق میں نہ ہو۔ تواب آخر عورت پہلے سے کسی مرد کی نامردی سے کیونکر واقف ہو سکتی ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ بھلے ہی یہ مرد اپنی فلاں بیوی کے حق میں نامرد ہے۔ لیکن میرے حق میں شاید ایسا نہ ہوگا اسی لئے میں نکاح کے لیتی ہوں۔

نکاح کے بعد رضامندی کا اظہار کرے

اسی طرح نکاح کے بعد نامردی کا علم ہو جانے کے بعد بھی رضامندی کے اظہار سے یہ حق ختم نہیں ہونا چاہیے اور عورت کا یہ حق حفظ رہتا چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت اور داعیہ جنسی کی شدت کے پیش نظر نکاح فتح کرنا چاہیے کرائے اس کی نظریہ ہے کہ بیوی نکاح کے بعد اگر شوہر کو اپنے نفقہ کی ذمہ داری سے بری کر دے تو اس کا کچھ اعتبار نہ ہوگا اور نفقہ مرد کے ذمہ باقی رہے گا۔ اسی طرح چند بیویوں میں سے ایک بیوی اپنی باری سے دستبردار ہو جائے تو اس سبکدوٹی کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے وہ محروم نہیں ہوگی بلکہ اس کی حقدار ہوگی کہ جب بھی چاہے وہ اپنا حق طلب کرے اور دوسری بیویوں کے ساتھ باری اور حصہ میں شریک ہو۔ ”وَإِنْ

لَهُ حَوَالَ سَابِقٍ: ۲/۱۹۷

۱- ابن نجیم مصری: البحر الرائق: ۴/ ۱۲۲۔ نیز لحاظہ ہو حاشیہ شہاب الدین احمد شلبی علی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق لفخر الدین زیلیعی: ۲/ ۱۴۶۔ ۲- الفتاوی الہندیہ: ۲/ ۳۰۶۔

رضیتِ احدی الزوجات بترك قسمتها لصاحبتها جازولها أن ترجع فی ذلك لأنها أسقطت حقالم يجب بعد فلا يسقط.^۱

جب ان صورتوں میں عورت کا پیشگی اپنے کسی حق سے مستبردار ہو جانا معتبر نہیں ہے تو آخر جنسی حق اور ضرورت کے معاملہ میں اس کی یہ رضامندی جواکش روئی جذبات اور ناقص تجربہ کاری پر منی ہوتی ہے، کا کیونکر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔^۲

ایک دفعہ مبادرت کے بعد

اس مسئلہ میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اکثر فقهاء کے نزدیک اگر مرد نے ایک بار بھی عورت سے مبادرت کر لی تو عورت کا حق جنسی ختم ہو جاتا ہے اور آئندہ اگر مرد نامرد بھی ہو جائے تو عورت فتح نکاح کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ علامہ صنعاۃ نے لکھا ہے کہ او زاعی، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور اسحاق بن راہو ترجمہ اللہ تعالیٰ یہ کا یہی مسلک ہے فقهاء نے یہ بات بہت واضح اور صریح انداز میں تحریر کی ہے۔

”ولو وطیها مرة ثمر عجز عن الوطی فی هذا النکاح لا يكون لها حق الخصومة.“^۳

ترجمہ: ”اگر ایک بار عورت سے جماع کر لیا پھر اس نکاح میں جماع سے عاجز ہو گیا تو عورت کو شوہر کے خلاف دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔

ابن ابی شیبہ نے حسن بصری، ابن شہاب زہری، عطاء، عمرو بن قتادہ ابوہاشم اور ابراہیم نجفی کی یہی رائے نقل کی ہے۔^۴

فقہاء کی اس رائے کا مأخذ غالباً کوئی نص نہیں ہے بلکہ چونکہ حدیث میں اس طرح کی تائیدیں کی گئی ہیں کہ مرد جب بھی عورت کو مبادرت کے لئے طلب کرے اسے آجانا چاہیے سے ذہن شاید اس طرف گیا ہو گا کہ عورت کا قانونی حق ایک ہی دفعہ ہے۔ یقیناً اس کا اخلاقی حق ہے البتہ مرد کا قانونی حق ہے کہ وہ ہمیشہ عورت سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اس کی ایک فطری وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک صحمند عورت اپنی جسمانی وضع اور ہیئت کے لحاظ سے ہر وقت ہی اس موقف میں ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی خواہشات کی تکمیل کر دے چاہے خود اس کی اشتہاء ساتھ دے یا نہ دے اس کے برخلاف مرد قدرتی طور پر اس وقت تک عورت سے ہم آغوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اس کے اندر شہوانی جذبات میں اشتعال نہ ہو۔

۱۔ محدث: ۲۴۹/۲: مصنف: "طلاق و تفریق": ۶۵: مصنف: خالد سیف اللہ رحمانی۔ ۲۔ سبل السلام: ۱/۱۳۵۔

۳۔ مصنف: ابن ابی شیبہ: ۶۵/۲: مصنف: شن و قایہ: ۶۵.

۴۔ مصنف: ابن ابی شیبہ: ۶۵/۲: مصنف: خالد سیف اللہ رحمانی۔

مصنف: خالد سیف اللہ رحمانی۔

لیکن ظاہر ہے کہ محض اتنی سی بات جماع کے معاملہ میں عورت کے قانونی حق کو یکسر ختم کرنے کے لئے کافی نہیں حدیث میں صرف عورت کو مرد کے مطالبہ پر آنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں یہ کہ جماع کی دعوت دینا حیاء کی بات ہے، اس لئے عورت کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ یہ کہ اس عمل کا مطالبہ طبی طور پر اکثر مرد ہی کی طرف سے ہوتا ہے عورت کی حیا اس کے لئے مانع ہو جاتی ہے، اس لئے ایسا کہا گیا اور چونکہ عورت ہر وقت مرد کی خواہش پوری کر سکتی ہے اور مرد ایسا نہیں کر سکتا، اس لئے اس طرح ہدایت دی گئی نہ یہ کہ ایک بار کے بعد عورت کو جماع کا حق رہتا ہی نہیں ہے اور اب جماع صرف مرد ہی کا حق ہے، اس لئے صرف عورت کوتا کید کی گئی کہ وہ مرد کے مطالبہ پر آنے سے گریز نہ کرے۔

دلائل کی روشنی میں

ہمیں چاہئے کہ اس مسئلہ پر قرآن و حدیث اور قیاس کی روشنی میں غور کریں۔ اس مسئلہ کا اصل مدارس پر ہے کہ ایک دفعہ جماع کے بعد عورت کا حق ہے یا نہیں؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کا حق اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے تو ظاہر ہے ایک دفعہ مباشرت کے بعد بھی نامردی فتح نکاح کا باعث ہو گی اور اگر ایک دفعہ جماع سے عورت کا حق صحبت ساقط ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اب اس کے لئے فتح نکاح کا مطالبہ کرنے کی کوئی ممکنگی نہ ہو گی۔

ابن حزم کی رائے ہے کہ ہر طبقہ میں کم از کم ایک دفعہ مرد پر عورت سے صحبت کرنا واجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتْهَنْ مِنْ حِلٍّ هُنَّ مَرْكُمُ اللَّهِ﴾^۱

تَرَجِيمَة: "جب وہ پاک ہو جائیں تو اسی راہ سے آؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔"

اور شیخ سابق نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ "وذهب جمہور العلماء الى ما ذهب اليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر."^۲

امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کی رائے ہے کہ کم از کم چار ماہ میں ایک دفعہ مباشرت واجب ہے، اس لئے کہ ایلاء کی مدت چار ماہ ہے اور اگر شوہر سفر پر ہوتی بھی چھ ماہ میں ایک بار ضرور آئے اور صحبت کرے، یہاں تک کہ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے اور عورت علیحدگی کی طالب ہو تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا، امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کی دلیل وہ واقعہ ہے جو زید بن اسلم رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْہُ سے

نقل کیا ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ مدینہ کا جائزہ لینے نکلے، ایک خاتون کے مکان سے گذر ہوا جو یہ اشعار پڑھ رہی تھی:

سَ تطاولُ هذَا اللَّبِيلُ وَاسْدُ جَانِبِهِ
وَطَالُ عَلَى إِنْ لَا خَلِيلُ إِلَّا عَبِيهِ
وَاللَّهُ لَوْلَا خَشِبَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ
لَحْرَكٌ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوْ أَنْبِهِ
وَلَكُنْ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَكْفِينِي وَأَكْرَامِ
بَعْلِي إِنْ تَوْ طَاءُ رَاكِبِهِ

ترجمہ: ”(رات طویل ہو گئی اور رات کا کنارا سیاہ ہو گیا اور مجھ پر یہ بات گراں ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں جس کے ساتھ میں کھیلوں، خدا کی قسم اگر خدا نے واحد کا خوف نہ ہوتا تو اس چارپائی کے کنارے میں رہے ہوتے۔ لیکن میرا پروردگار اور میری غیرت میرے لئے کافی ہے اور میں اپنے شوہر کی تعظیم کروں گی اس بات سے کہ اس کی سواری روندی جائے)“

حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر جہاد میں گئے ہیں۔ آپ نے حضرت حصہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حصہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شرماں پھر آپ کے اصرار پر بتایا پانچ، چھ ماہ۔ چنانچہ آپ نے مجاہدین کے لئے اصول متعین کر دیا کہ وہ چھ ماہ جہاد میں رہیں، چار ماہ گھر پر، ایک ماہ میں آمد کا سفر اور ایک ماہ میں واپسی کا سفر طے کریں۔

امام غزالی رحمہم اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ ہر چار راتوں میں سے ایک رات میں ملے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں کہ امیر المؤمنین! میرا شوہرون میں روزہ رکھتا ہے اور رات نماز میں گزارتا ہے، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی شکایت کروں حالانکہ وہ اللہ کی اطاعت کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا شوہر کیا ہی بہترین شوہر ہے وہ بار بار اپنی بات کہتی رہیں اور حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جواب دیتے رہے، بالآخر حضرت کعب نے کہا امیر المؤمنین! یہ دراصل اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ اس سے دور رہتا ہے۔ حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تم نے سمجھا ہے تو فیصلہ بھی تمہیں کرو۔

حضرت کعب رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی شکایت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کھانے پینے کی، کہا نہیں اب خود ان کی بیوی نے اشعار کی زبان میں اپنام عسانیا۔

بِ يَا إِيَّاهَا الْقَاضِيِ الْحَكِيمِ ارْشَدْهُ
الْهَمِي خَلِيلِي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدِهِ
زَهْدَهُ فِي مَضْجُوعِي نَعْبُدَهُ
فَاقْضِ القَضَاءِ كَعْبَ وَلَا تَرْدَهُ
نَهَارَهُ وَلِيْلَهُ مَا يَرْقَدَهُ
فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ احْمَدَهُ

ترجمہ: ”اے عقل مند قاضی! میرے رفیق حیات (شوہر) کو میرے بستر سے ان کی مسجد نے غافل کر دیا ہے اب ان کو ہدایت کیجئے ان کی عبادت نے ان کو میرے ساتھ سونے سے بیزار کر دیا ہے، تو اے کعب! آپ فیصلہ کیجئے اور ان کو واپس جانے نہ دیجئے۔ اور عبادت ان کو رات دن کسی وقت سونے نہیں دیتی ہے (اس لئے) عورتوں کے حق میں ان کو لاائق ستائش نہیں صحیح)۔“

شوہرنے جواباً کہا:

بِ زَهْدِنِي فِي النِّسَاءِ وَفِي الْحِجْلِ
أَنِي امْرُؤٌ ذَهَلْنِي مَانِزِل
فِي سُورَةِ النَّمَلِ وَفِي السَّبْعِ الطَّوْلِ
وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفِ جَلْلِ

ترجمہ: ”(مجھ کو عبادت نے اپنی بیوی کے بستر اور اس کی مچھر دانی کے اندر جانے سے روک دیا ہے اور اب میں ایسا آدمی ہوں جس کو ان آئیوں نے جو سورہ نمل اور سبع طوال میں نازل ہوئی ہیں مدھوش کر دیا ہے، اور کتاب اللہ میں بہت انذار اور اغتاہ ہے)“

حضرت کعب رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

بِ إِنْ لَهَا عَلَيْكَ حَقًا يَارْجُل
نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعِ لَمَنْ عَقْل
فَأَعْطَهَا ذَاكَ وَدْعَ عَنْكَ الْحِيلِ

ترجمہ: ”اے شخص! اگر یہی بیوی کے لئے حق تجوہ پرواجب ہے، چارش ب میں ایک شب

ضرور طاکرو اگر عقلمند ہو۔ اب اس کو اس کا حق دو اور اپنے حیلے سے باز آؤ۔“

پھر وضاحت فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لئے چار تک بیویاں حلال کی ہیں، لہذا ہر چوتھا دن بیوی کا ہے۔
بقیہ تین دن تمہارے ہیں تم اس میں عبادت کرو۔ حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرے
لئے فیصلہ دشوار ہے کہ میں تمہاری معاملہ فہمی سے زیادہ متاثر ہوا یا تمہارے فیصلہ سے پھر اسی بناء پر حضرت عمر
رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ ان کو بصرہ کا قاضی بنادیا۔

یہ تمام شواہد اس بات کے ثبوت کے کافی ہیں کہ جماع جس طرح مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا بھی
ستقل حق ہے اور ایک دفعہ کی ہمسٹری سے ساقط نہیں ہوتا، اس کی سب سے واضح دلیل ایلاء ہے، اگر ایک دفعہ
کی مباشرت کے بعد عورت کا حق جماع ساقط ہو جاتا تو ضرور تھا کہ قرآن مجید ایلاء کی صورت میں صحبت یا تفریق
کو اس وقت واجب قرار دیتا جب پہلے کبھی مباشرت کی نوبت ہی نہ آئی ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

چنانچہ ابوثور کا خیال ہے کہ اگر شوہر ایک بار جماع کرنے کے بعد نامرد ہو جائے تو بھی اس کا نکاح فتح کیا
جائے گا۔ ”وقال أبوثور إن ترك جماعه العلة أجل لها سنة وإن كان بغیر علة فلات تأجيل.“
ہمارے زمانہ میں جو فتنہ کا زمانہ ہے اور جب بے حیائی، فناشی اور زنا کی، کہا جاسکتا ہے کہ تبلیغ ہو رہی ہے اور حکومت
و قانون کی نظر میں جب تک جبرنا ہو زنا جرم ہی نہیں ہے ضروری ہے کہ اس رائے پر عمل کیا جائے اور بعد میں پیدا
ہونے والی نامردی کو بھی فتح کا موجب قرار دیا جائے۔

ضرر پہنچانے کے لئے قصد اجتماع نہ کرے

اس سلسلہ کا دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نامرد تونہ ہو لیکن مخصوص عورت کو ضرر پہنچانے اور تکلیف
دینے کی نیت سے ایک عرصہ تک اس سے مباشرت ترک کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا قاضی اس صورت میں
تفریق کر سکتا ہے؟ امام احمد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَيْہِ اور زدیک یہ صورت بھی ”ایلاء“ کے حکم میں ہے یعنی جس طرح
ایلاء میں چار ماہ تک بیوی سے مباشرت چھوڑ دی جائے تو زوجین میں تفریق کر دی جائے گی۔ اسی طرح یہاں
بھی چار ماہ کے بعد تفریق کر دی جائے گی۔

”واختلفوا فی من ترك وطی زوجته للا ضرار بها من غير يمين أكثر من أربعة
أشهر هل يكون موليا أمر لا؟“ فقال أبو حنيفة والشافعی لا وقال مالک

لہ اس مقدمے سے متعلق اشعار کا ترجمہ حضرت مولانا عبد الصدیق جانی کی کتاب ”الفسخ والتفریق“: (۷۰، ۷۹) سے مانوذ ہے۔ البتہ
اس میں عورت کے استغاثہ کا تیرا مصروف اور شوہر کے جواب کا چوقا مصروف نہیں ہے مولانا نے یہ واقعہ طحاوی ۸۹/۲ سے نقل کیا ہے۔

لہ ملخص از: فقه السنۃ: ۱۹۰ - ۱۸۸/۲ سہ سبل السلام: ۱۳۵/۲

وأحمد في أحد روايته نعم . وإن تركها إضراراً بها من غير عذر ضربت له مذلة فحكمه له بحكمه وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر . ”^{سل}

ترجمہ: ”جو شخص محض بیوی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے قسم کھائے بغیر چار ماہ سے زیادہ طلب کرنا چھوڑ دے تو کیا وہ ایلاء کرنے والا سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اس میں فقهاء کے درمیان اختلاف ہے امام ابوحنیفہ اور شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے کہا نہیں، امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے کہا ہاں، یعنی ایلاء کا حکم ہو گا۔ اور اگر بلا عذر بیوی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے چھوڑ دے تو اس کے لئے ایلاء کی مدت کا حساب کیا جائے گا اور ایلاء ہی کا حکم لگایا جائے گا اور یہی حکم اس شخص کا بھی ہو گا جو ظہار کر لے اور کفار نہ ادا کرے۔“

ایلاء کے مسئلہ میں احتلاف و شافعی کی نظر ”الفاظ“ پر ہے کہ ”ایلاء“ کے معنی ہی چونکہ ”قسم کھانے“ کے ہیں اس لئے اگر شوہر قسم نہ کھائے اور کتنے دن بھی عورت کو صبر و آزمائش میں بدلار کھئے نہ ایلاء ہو گا اور نہ ایلاء کے احکام نافذ ہوں گے۔ اور مالکیہ اور حنبلہ کی نگاہ شریعت کی روح پر ہے کہ اصل مقصود قسم کھانا اور نہ کھانا نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ مرد اس قسم کے ذریعہ عورت پر زیادتی کر رہا ہے لہذا اگر قسم نہ کھائے اور ایسی زیادتی کا مرتكب ہو، تو بھی زوجین میں تفریق کر دی جائے گی۔

ویسے یہ استدلال کہ ”ایلاء“ کے لفظ ہی میں ”قسم“ کا معنی ہے، بجاۓ خود محل نظر ہے یہ درست ہے کہ ”ایلاء“ کے معنی ہی قسم کھانے کے ہیں، مگر اصطلاحات کے باب میں یہ بات عام ہے کہ بھی ایک اصطلاحی لفظ خود خاص ہوتا ہے، لیکن اس کے مصدق اور مفہوم میں عموم ہوتا ہے، جیسے ”ظہار“ کا لفظ ہے یہ اصل میں بیوی کو مان کی ”پیٹھے“ سے تشیہ دینے کا نام ہے مثلاً ”انت علی کظہر امی“۔ ”ظہر“ کے معنی ہیں پیٹھے کے، لیکن فقهاء نے اس کے مصدق میں عموم برداشت ہے کہ اپنی بیوی کو محترمات کے کسی بھی ایسے عضو سے تشیہ دینا جس کا دیکھنا مرد کے لئے حرام ہو، ظہار میں داخل کیا ہے، اور اس کا حکم ظہار ہی کا ہے، جیسے ”انت علی کفرج امی“..... وغیرہ پس جس طرح ”ظہار“ میں مقصود پر نظر رکھی گئی اور لفظ ”ظہر“ کو مسئلہ کی بنیاد نہیں سمجھا گیا، اسی طرح ”ایلاء“ میں ایلاء کے مقصود پر نظر رکھی جانی چاہیے اور خود قسم کو احکام کا معیار اور مدار نہیں بنانا چاہیے۔

دوسرے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ قسم کھائے بغیر قصد بیوی سے مباشرت ترک کر دینا ”ایلاء“ میں داخل نہیں ہے، تو بھی قیاس کی گنجائش موجود ہے کہ چونکہ ہر دو صورت میں بیوی کے ساتھ تعددی ضرر اور اس ایک ضروری حق سے محروم کرنے کی ملت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس صورت کو بھی ایلاء پر قیاس کر کے اس میں فتح

نکاح کی گنجائش ہونی چاہیے۔

فقہہ ماکلی کی تفصیلات

ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں فقہہ ماکلی کی تفصیلات بھی ذکر کر دی جائیں علامہ ابوالبرکات در در

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نَزَّلَهُ نے لکھا ہے کہ:

..... اگر کوئی شخص قسم کھالے کہ بیوی کے ساتھ شب باشی نہیں کرے گا یا یونہی کرتا چھوڑ دے اور شوہر قاضی کے سامنے موجود ہو تو وہ اپنی صوابدید سے دونوں میں تفریق کر دے یعنی ضروری نہیں کہ قاضی شوہر کو کوئی مهلت دے۔

..... اور اگر وہ موجود نہ ہو اور کہیں باہر سفر پر ہو تو قاضی مرد کو لکھے کہ یا تو حاضر ہو یا پھر بیوی کو طلاق دے دو۔

..... پھر اگر مرد نہ آئے تو قاضی بس کی بیوی کو طلاق دے دے۔

..... اگر شوہر پر عبادت کا اتنا غلبہ ہو کہ اس کی وجہ سے بیوی سے بے تعلق ہو گیا ہو تو بھی قاضی اس کو حکم دے گا کہ یا تو بیوی سے ہمستر ہو یا طلاق دے دو اور ہمستر نہ ہو تو کوئی مهلت دیئے بغیر اس کی بیوی کو طلاق دے دے گا۔

”كما يجتهد ويطلق عليه (لوترك الوطاء) هذا إن كان حاضراً بل (و إن) كان

(غابياً) ويكتب له إما أن يحضر و إما أن يطلق فإن لم يحضر ولم يطلق طلاق

عليها الحاكم إلا أن ترضي بذلك ومعنى الا جتهاد بلا أجل

(او سوم العبادة) أى دوا مها بقيام الليل وصوم النهار وترك زوجته بلا وطاء

فبقال له: إما أن تاتيها أو تطلقها أو يطلق عليك بلا ضرب أجل أيلاء“۔



خلع میں قاضی اور حکم کے اختیارات

خلع کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قاضی اور عدالت کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا خلع مکمل طور پر مرد ہی کے اختیار میں ہے اور اس کی آمادگی اور رضامندی ہی پر موقوف ہے یا خصوصی حالات میں قاضی کو دخیل ہونے کا بھی کچھ حق ہے؟

فقہاء کی رائیں

اس سلسلہ میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ اَنْدَلَّ تَعَالَیٰ کے ہاں یہ اختیار مکمل طور پر مرد ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قاضی خود یا قاضی کی طرف سے مقرر کئے ہوئے حکم بطور خود عورت کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اس کے برخلاف امام مالک رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ اَنْدَلَّ تَعَالَیٰ کے نزدیک قاضی زوجین کے حد سے گزرے ہوئے باہمی اختلاف کی صورت میں ایک دور کنی مصالحتی کمیٹی قائم کرے گا جس میں بہتر ہے کہ ایک مرد کارشہ دار ہو اور دوسرا عورت کا دونوں سمجھدار اور شرعی احکام سے واقف ہوں پھر وہ ان دونوں کے حالات کا چائزہ لیں۔ اگر مصالحت اور اتفاق کی کوئی صورت نکل آئے تو دونوں میں مصالحت کر دیں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے اور دونوں کی رائے ہو کہ باہم تفریق اور علیحدگی کر دی جائے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اس طرح کہ مرد کارشہ دار حکم طلاق دے دے اور عورت کا رشتہ دار حکم مہر معاف کر دے یا جو معاوضہ مناسب سمجھے عورت کو اس کی ادائیگی کا پابند کرے اور دونوں میں تفریق ہو جائے۔

احناف کے دلائل

احناف دراصل اس مسئلہ میں اس عام اصول پر چلتے ہیں کہ طلاق کا اختیار مردوں کے ہاتھ میں ہے اور خلع بھی مال کے عوض میں طلاق ہی ہے اس لئے مرد کی آمادگی بہر طور ضروری ہو گی۔ اسی بناء پر ان کے یہاں حکمین کی حیثیت زوجین کے وکیل کی ہوتی ہے اور وہ انہیں حدود میں رہ کر اقدام کر سکتے ہیں۔ جوز وجین نے متعین کر دی ہیں۔

دوسرے ان کا استدلال اس واقعہ سے بھی ہے جسے ابو بکر جاصص رازی نے اپنی احکام القرآن میں اور دوسرے مختلف مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُ نے ایک ایسے ہی مقدمہ میں حکم متین کئے پھر ان حکمین سے مخاطب ہو کر ان کی ذمہ داری بتائی کہ اگر ان دونوں کو جمع کر سکو تو جمع کر دو اور ان کا ازدواجی رشتہ، برقرار رکھو اور تفریق و علیحدگی مناسب محسوس ہو تو ایک دوسرے کو علیحدہ کر دو عورت تو اس پر آمادہ ہو گئی مگر مرد نے علیحدگی پر اپنی عدم آمادگی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُ نے مرد پر دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جب تک تم اس عورت کی طرح فیصلہ کی ہر دو صورت پر آمادگی کا اظہار نہ کر دو، یہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ (لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت) یہاں حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُ کا مرد کو تفریق کے لئے آمادہ ہونے پر مجبور کرنا بالکل بے معنی ہو گا۔ اگر حکم کو بطور خود طلاق دینے کا اختیار حاصل ہو اور وہ مرد کی رضا مندی حاصل کرنے کا مکلف نہ ہو۔

امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَیٰ کے دلائل

امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَیٰ اور جو فقہاء قاضی کی طرف سے مقرر کئے ہوئے حکمین کو تفریق اور علیحدگی کا مجاز گردانے ہیں۔ ان کی دلیل سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود قرآن مجید کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کہتا ہے:

﴿وَإِنْ خَفَتْ شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوقِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا﴾^۱

ترجمہ: ”اگر تم کو ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا اندریشہ ہے تو ایک ایک حکم مرد و عورت کے خاندان سے بھیجو۔ اگر وہ دونوں اصلاح حال چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے باخبر اور واقف ہے۔“

اس آیت میں متعدد قرآن ایسے ہیں جو امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَیٰ کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔

۱ اول یہ کہ اس آیت کے مخاطب قضاۃ اور حکام ہیں۔ سعید بن جبیر، شحاک رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَیٰ، اکثر مفسرین اور خود ابو بکر جاصص رازی کی سیہی رائے ہے اور قرآن کے لب و ہجہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قاضی اور حاکم کی حیثیت واعظ اور محض اخلاقی اچیل کرنے والے ناصح کی نہیں ہے بلکہ اس کا منصب یہ ہے کہ جو لوگ وعظ و نصیحت کی زبان سمجھنے پر آمادہ نہ ہوں ان کے لئے قانون اور اختیارات کی تلوار استعمال کی جائے

لہذا اگر قاضی کے مقرر کردہ حکمین کو قانونی اختیار حاصل نہ ہو تو قرآن کا قاضی کو مخاطب بنانا اور قاضی ہی کی طرف سے حکمین کی تقریب ایک بے معنی بات ہو گی۔ اس لئے قضاۃ اور حکام سے خطاب بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مسئلہ میں قاضی کے نمائندہ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہونی چاہئے کہ وہ چاہے تو مصالحت کرادے یا اپنی صوابدید پر علیحدگی کر دے۔

۲ دوسرے قاضی کے بھیجے ہوئے ان نمائندوں کے لئے قرآن نے حکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حکم کے معنی خود حکم اور فیصلہ کرنے والے کے ہیں۔ اب اگر اس کی حیثیت مخصوص طرفین کے وکیل کی ہو اور وہ ان کے احکام کا پابند ہو تو وہ حکم اور فیصلہ کہاں باقی رہا۔ اس تعبیر کا یہ تقاضہ بھی ہے کہ وہ تفریق اور مصالحت کے معاملہ میں خود مختار ہوں گے۔

۳ تیسرا قرآن نے یہاں ﴿ان یریدا اصلاً حا﴾ کہا ہے۔ اگر حکمین ان دونوں میں مصالحت کرنا چاہیں۔ یہاں حکمین کی طرف ”ارادہ“ اور ”چاہئے“ کی نسبت کی گئی ہے اور ایسی بات اسی کے بارے میں کہی جاسکتی ہے جو کسی کام کے کرنے اور اس کے خلاف اقدام کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو شخص کسی کا وکیل ہو وہ ارادہ و اختیار کا مالک نہیں ہوتا وہ بہر صورت خاص اسی حکم کا پابند ہوتا ہے۔

احادیث

اب آبیئے ان احادیث کی طرف جو اس مسئلہ میں قاضی کے مختار ہونے کو بتاتی ہیں:

۱ امام بخاری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا كے نے حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ سے روایت کی ہے کہ ثابت بن قیس کا بیوی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے ثابت بن قیس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے دین و اخلاق سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر کسی کی ناشکری کروں۔ (اکرہ الکفر فی الاسلام) یعنی ایک طرف ثابت رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا میرے ساتھ اچھا سلوک ہے دوسری طرف میراں کی طرف طبعی رجحان نہیں ہے جس کے باعث میری طرف سے ان کی تقدیری ہوتی ہے اس لئے ہم دونوں میں علیحدگی کرادی جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کو اس کا باغ لوٹا دو گی؟ انہوں نے کہا ”ہا۔“ اب آپ ﷺ نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو ”اقبل الحدیقة و طلقها تطليقة.“ ۱

اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حضور ﷺ نے ان کو حکم دیا لہذا انہوں نے بیوی کو علیحدہ کر دیا

۱۔ صحیح بخاری: ۷۹۰/۲، باب الخلع وكيف الطلاق فيه

(امرأة ففارقها) امام بخاری کی ایک اور روایت اور نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام جمیلہ بنت عبد اللہ تھا۔

اس حدیث میں واقعہ کا یہ پہلو بہت قابل غور ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے اپیل نہیں کی، نہ مشورہ کیا بلکہ طلاق دینے کا حکم فرمایا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قاضی مرد کی رضا مندی اور آمادگی معلوم کرنے کا پابند نہ ہوگا، بلکہ حسب ضرورت اس کو اپنی صوابدید پر نافذ کرے گا۔ اب اس کے نافذ کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ خود مرد اس بات کے لئے تیار ہو جائے اور طلاق دے دے، جیسا کہ اس واقعہ میں ہوا یا پھر قاضی خود علیحدہ کر دے۔

۲ دوسرا واقعہ بھی حضرت ثابت ہی کا ہے جسے ابو داؤد نے سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا ہے کہ جبیہ بنت سہل رضی اللہ عنہا، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے جبیہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ ان کا کوئی عضوٹوٹ گیا۔ جبیہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شوہر کی شکایت کی آپ ﷺ نے ان کو بلا یا اور فرمایا کہ "جبیہ رضی اللہ عنہ کے مال میں سے کچھ لے کر اس کو رہا کر دو۔" ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا۔ "کیا یہ درست ہو گا؟" آپ ﷺ نے فرمایا، "ہا۔" ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس کو دو باغ دیئے ہیں جو اسی کے قبضہ میں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو لے لو اور جبیہ کو چھوڑ دو (خدھاوفارقها) چنانچہ ثابت نے ایسا ہی کیا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبیہ بنت سہل رضی اللہ عنہ کو اصل میں ان کی شکل و صورت سے کراہت تھی اور یہ ناپسندیدگی اس درجہ تھی کہ ان کے الفاظ میں "اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو جیسے وہ داخل ہوئے تھے ان کے منه پر تھوک دیتی" (والله لولا مخافة الله اذا دخل على بصقت في وجهه) ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بیویوں جبیہ اور جمیلہ رضی اللہ عنہا دونوں ہی کو اصل شکایت ثابت رضی اللہ عنہ کی صورت ہی سے تھی جیسا کہ جمیلہ رضی اللہ عنہ کا بیان گذر چکا ہے کہ مجھے ان کے دین و اخلاق سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے جبیہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی نافرمانی کی بات سرزد ہو گئی ہو جس نے ثابت رضی اللہ عنہ کو مشتعل کر دیا ہو اور انہوں نے مارا ہو جس میں ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوں۔ دیکھئے اس واقعہ میں بھی آپ ﷺ نے ثابت رضی اللہ عنہ سے کوئی سفارش اور اچیل نہیں کی ان سے طلاق پر رضا مندی نہیں معلوم کی بلکہ حالات کو پیش نظر رکھ کر خود فیصلہ فرمایا کہ مہر کی رقم لے لے اور طلاق دے دے۔

آثار صحابہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہم

احادیث کے بعد صحابہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور معمول پر نظر ڈالئے:

۱ اس نوعیت کا ایک واقعہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ ان کے زمانہ میں عقیل بن ابی طالب رضوی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت عتبہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہا (جو میاں بیوی تھے) کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ فاطمہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عثمان غنی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عثمان رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد اللہ ابن عباس رضوی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت حکم بھیجا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا (لا فرقن بینهما) ”میں ضرور ان دونوں میں تفریق کر دوں گا“ حضرت معاویہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عبد مناف کے دو بزرگ خانوادوں میں تفریق نہیں کر سکتا۔ (ما کنت لا فرقن بین شیخین من عبد مناف) یہاں تک کہ ان دونوں نے باہم خود ہی مصالحت کر لی۔

۲ اس سلسلہ کا دوسرا واقعہ ہے حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا ہے جس کا جملہ ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ دارقطنی نے محمد بن سیرین کے واسطہ سے صحیح سند سے اس واقعہ کی تفصیل: ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ ایک شوہر و بیوی اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شوہر و بیوی ہر ایک کے لوگوں میں سے ایک ایک حکم منتخب کئے گئے۔

حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کو اپنی ذمہ داری معلوم ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مناسب سمجھوتے دونوں میں علیحدگی کراؤ۔ عورت نے کہا میں اللہ کی کتاب پر راضی ہوں چاہے اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف اور شوہرنے کہا کہ جہاں تک علیحدگی کی بات ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں۔ (اما الفرقۃ فلا) حضرت علی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے جھوٹ کہا۔ تم بھی جب تک اس عورت کی طرح اقرار نہ کرو یہاں سے جانیں سکتے۔

اس مقدمہ میں حضرت علی کا حکمین سے کہنا کہ کیا تم اپنی ذمہ داری سے واقف ہو؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو علیحدگی کراؤ۔ (هل تدریان ما غلیکما؟ ان رأیتما ان تفرقا فرقتما) اس بات کی دلیل ہے کہ حکمین بحیثیت حکم تفریق کا اختیار رکھتے ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کی بحیثیت محض وکیل کی ہوتی تو سوال اس طرح ہوتا ”کیا تمہیں سعلوم ہے کہ تم کس بات کے وکیل بنائے گئے ہو؟ (هل تدریان ل الجامع لاستکام القرآن: ۱۷۶/۵) یہاں بھی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت حکم فرماتا کہ میں ان دونوں کے درمیان ضرور تفریق کر دوں گا، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکم بحیثیت حکم خود ہی تفریق کے معاملہ میں مختار ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں عی حکم کسی ایک رائے پر تھنی ہو جائیں۔

ما و کلتما) پھر یہ کہ خلع میں اگر ایک طرفہ مرد کی رضامندی ضروری ہوتی اور قاضی کو اس سلسلہ میں کوئی اختیار نہ ہوتا تو یہ بات بھی درست نہ ہوتی کہ حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُ اس پر طلاق کی آمادگی کے لئے کیسے دباؤ ڈال لیں وہ زیادہ سے زیادہ سفارش اور اپیل ہی کر سکتے تھے۔

ان وجہ کی بناء پر واقع ہے کہ اس مسئلہ میں امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَیْ عَلَيْہِ اَللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْہُ کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے اور یہی رائے اکثر فقهاء اوزاعی، اسحاق، شعی، نجی، طاؤس، ابو سلمہ ابراہیم، مجاهد اور امام شافعی کی ہے اور صحابہ میں بھی حضرت علی حضرت عثمان اور حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُمْ کا یہی مسلک نقل کیا گیا ہے۔

احناف کے دلائل کا تجزیہ

احناف کے دلائل اس مسئلہ میں قابل غور ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اصل یہ ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، تسلیم ہے مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مقاصد نکاح کی حفاظت اور زوجین کی مصلحتوں کی رعایت کے پیش نظر قاضی بھی بہت سی صورتوں میں تفریق کا مختار بن جاتا ہے۔ یہاں بھی زوجین کے بڑھتے ہوئے شدید اور ناقابل حل اختلاف کو پیش نظر رکھ کر جب قاضی کے نمائندے اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ ان دونوں میں تفریق اور علیحدگی ہوئی چاہئے تو مقاصد نکاح کی حفاظت اور دونوں کو اللہ کی حدود پر قائم رکھنے کے لئے ضروری ہوگا کہ یہ لگام مرد سے لے لی جائے اور قاضی کی طرف سے مقرر شدہ حکم از خود تفریق کروں۔ احناف کا یہ استدلال کہ "حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُ نے شوہر کو اس کا اقرار کرنے پر مجبور کیوں کیا کہ میں بھی حکم کے فيصلہ کے مطابق مصالحت اور علیحدگی ہر دو صورت پر آمادہ ہوں۔ کیونکہ اگر حکم کو اس کا اختیار ہوگا تو شوہر کا اقرار..... اور انکار کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔" محل نظر ہے۔ امام مالک اور ان کے ہم خیال حضرات کے نزدیک حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالَیْ عَنْہُ کے اس حکم کی حیثیت وہی تھی جو نامرد کو طلاق کا حکم دینے کے سلسلے میں ہے۔ یعنی اگر شوہر نامرد ہو اور عورت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس سے علیحدگی کی حقدار ہے تو قاضی پہلے خود شوہر سے کہے گا کہ وہ عورت کو طلاق دے دے۔ مرد اگر اس پر آمادہ ہو گیا تو تھیک ہے ورنہ خود قاضی اس کی طرف سے عورت کو طلاق دے دے گا۔ حضرت علی کا مطالبہ یہاں اسی نوعیت کا تھا کہ اگر شوہر خود طلاق دے دے تو بہتر ہے ورنہ پھر قاضی کے نمائندے حکمین خود اس ناخوشنگوار فریضہ کو انجام دیں گے۔

فقہ مالکی کی تفصیلات

فقہ مالکی کی تفصیلات جو علامہ ابو عبد اللہ قطبی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَیْ عَلَيْہِ اَللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْہُ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں حسب ذیل

سلہ فقہ السنۃ: ۲۷۶/۲، المفتی: ۲۴۴/۷۔

ہیں:

- ❶ حکم کا تقرر قاضی کرے گا۔
- ❷ بہتر ہے کہ دو حکم مقرر کئے جائیں۔ یوں اگر ایک ہی حکم مقرر کرے یا زوجین ایک ہی شخص کے حکم ہونے پر اتفاق کر لیں تو بھی کافی ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو گا۔
- ❸ اگر دو حکم مقرر ہوئے تو ضروری ہے کہ فیصلہ دونوں کے اتفاق رائے سے ہو، اگر ایک نے تفریق کی رائے دی اور دوسرے نے اختلاف کیا تو اب تفریق نہ ہو سکے گی۔
- ❹ حکمین تفریق کا فیصلہ کرنے میں نہ زوجین کی مرضی کے پابند ہوں گے اور نہ خود قاضی کے حکم کے۔
- ❺ حکمین بہتر ہے کہ مرد و عورت کے اقرباء میں سے ہوں مگر یہ ضروری نہیں ہے قاضی اپنی صوابدید پر کسی بھی دوآمدیوں کو اس کے لئے مقرر و معین کر سکتا ہے۔
- ❻ حکمین کو احکام شرعیہ سے واقف، دیانتدار اور غیر جانب دار ہونا چاہئے۔

”یکونان من اهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقہ۔“ ۴

ہمارے زمانے میں جہالت اور احکام شرع سے بے خبری اور اس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں ظلم و ستم اور اختلاف کی روشنی میں اگر اس مسئلہ میں فقہاء مالکیہ کی رائے قبول کر لی جائے تو شاید مناسب ہو۔ ان امور کے علاوہ ہمارے فلاسفہ اسلام نے خلع کی جور و حکمت بتائی ہے وہ بھی اس سے مطابقت رکھتی ہے جو امام مالک کا مسلک ہے۔ چنانچہ حافظ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں۔

”خلع عورت کے اختیار میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ مرد کے اختیار میں طلاق ہے۔ چنانچہ جب عورت کو مرد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو اس کے اختیار میں خلع ہے اور جب مرد کو عورت کی طرف سے تکلیف ہو تو شریعت نے اسے طلاق کا اختیار دیا ہے۔“ ۵

یہ چند سطریں اس لئے لکھی گئی ہیں کہ علماء کرام اور ارباب افتاء اس جزئیہ پر نظر ثانی کریں۔
والله هو المستعان وعليه التكلان.



حالت نشہ کی طلاق

نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ یہ اس زمانہ کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہئے۔ کہ نشہ کا اطلاق کس کیفیت پر ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کیفیت مختلف لوگوں میں مختلف ہوا کرتی ہیں اور کوئی متعین حالت اور کیفیت نہیں ہے جو ہر نشہ نوش کے ساتھ پیش آئے تاہم فقهاء نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ایسی مددوшی کہ انسان زمین و آسمان اور مرد و عورت کے درمیان بھی فرق نہ کر سکے تو ”نشہ“ کہا جائے گا۔ دوسری رائے ہے کہ عقل پر سرور کا اس طرح غالب آجانا کہ وہ بے معنی گفتگو کرنے لگے۔ ”نشہ“ کی کیفیت ہے۔ علامہ شامی کا رحمان اس دوسری رائے کی طرف نظر آتا ہے۔ اور تجربہ بھی ہے کہ نشہ کی عام حالت اسی کیفیت کی ہوتی ہے اول الذکر صورت اس وقت پیش آتی ہے جب غیر معمولی حد تک نشہ کی کیفیت طاری ہو جائے۔

فقہاء کی رائے

حالت نشہ کی طلاق واقع ہونے کے مسئلہ میں فقهاء کے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی طرف اہل علم کی خاصی تعداد موجود ہے جو لوگ نشہ کی طلاق کو واقع قرار دیتے ہیں، ان میں مجاهد، عطا، حسن بصری، سعید بن میتب، ابراہیم، ابن شہاب زہری، شعی، قاضی شریح، جابر بن زید، سلیمان بن یسیار، ابن شبرمه، سفیان ثوری اور ابن الجلی کے علاوہ امام مالک، امام ابوحنیفہ اور ان کے صاحبین اور ایک قول کے مطابق امام شافعی بھی شامل ہیں۔^۱

اس کے بالمقابل جو لوگ از راہ معصیت نشہ نوش و نشہ خوار کی دی گئی طلاق کو واقع نہیں قرار دیتے ان میں حضرت عمر بن عبد العزیز، جابر بن زید، عکرمہ، طاؤس، اسحاق، ابوثور، لیث بن سعید، عثمان بن قت، ایک قول کے

^۱ شهزاد المحتار: ۴۳۴/۲، شهزاد الراونق: ۶۶۶/۳

مصنف این ابی شیبہ: ۵/۳۷، ۳۸” من اجاز طلاق السکران“ المحلی لابن حزم: ۱/۱۲۰ المدونۃ الکبریٰ: ۲/۱۳۰، طلاق السکران والمکرہ کتاب الام: ۲/۲۵۳، طلاق السکران“ خلاصۃ الفتاویٰ جلد ۲ بدایۃ المجتهد جلد ۲، الشرح الصغیر للدردیر: ۲/۴۳

مطابق عطاء، زہری، اور امام شافعی کے علاوہ امام احمد بن حبیل، ابن حزم ظاہری، حافظ ابن قیم، احناف میں امام طحاوی اور ابو الحسن کرخی اور شوافع میں مزین جیسے لوگ موجود ہیں۔^۱

احناف کا مسلک

امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ حالت نشہ کی طلاق "زراء" واقع ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس کا نشہ پینا ناجائز طریقہ پر رہا ہو۔ ہاں اگر وہ کوئی مباح شی ہو اور اسی سے اتفاق آنے پیدا ہو گیا یا اکراہ واضطرار کی وجہ سے اس کے لئے نشہ نوشی جائز رہی ہو تو اب اس کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ علامہ کاسانی نے احناف کے مسلک کی ان الفاظ میں وضاحت کی ہے۔ "اگر سکران (جو شخص نشہ میں ہو) نے زوجہ کو طلاق دی جب کہ نشہ کسی منوع شے سے ہوا ہو مثلاً شراب یا نبیذ اپنی خواہش سے پی، نشہ ہو گیا اور اس کی عقل زائل ہو گئی اور ایسی حالت میں اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو عام علماء اور صحابہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔"

پہلے گروہ کے دلائل

جو لوگ نشہ کی طلاق کو واقع قرار دیتے ہیں ان کی دلیلیں حسب ذیل ہیں۔

❶ صفوان بن عمر والطائی نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے سینے پر بیٹھ گئی اور مطالبه کیا کہ اگر وہ اسے طلاق نہ دے گا تو وہ اسے مارڈا لے گی۔ چنانچہ جبر و دباؤ کی وجہ سے مرد نے اسے تمیں طلاق دے دیں بعد کو جب یہ معاملہ حضور ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا "لا قیلولة في الطلاق" طلاق کے معاملہ میں کوئی تھہراو نہیں ہے۔

❷ حضرت عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا "کل الطلاق جائز لا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" کہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے مغلوب العقل آدمی کی طلاق کے۔

❸ آپ نے فرمایا تمیں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور ان کا مذاق بھی ارادہ ہے۔ نکاح طلاق اور رجعت مذاق اور نشہ دونوں اس بات میں مشترک ہیں کہ بولنے والا اس کا حقیقی مفہوم مراد نہیں لیتا۔

❹ اہل عمان میں سے ایک شخص نے شراب کے نشہ میں بیوی کو تمیں طلاق دے دیں چار عورتیں اس کی گواہ

لے حوالہ جات سابق والمغنى لابن قدامة: ۱۱۵/۷

تمہارے احناف کے مسلک کا غلام راقم المعرفہ کی کتاب "طلاق و تغريق" ۲۶/۳۷ سے ماخوذ ہے۔ خلاصۃ الفتاوی: ۷۵/۲
تمہارے بدانع الصنائع: ۹۹/۳ کے اس حدیث کو ابن حزم نے اخلي میں اور نام محمد نے اپنی موظا میں نقل کیا ہے۔

۴۔ المحتوى: ۲۰۳/۱۰۲۱

تمہارے ابن ماجہ ابو داؤد ترمذی بحوالہ مشکوہ: ۲۸۴/۲ باب الخلع والطلاق.

تحمیں۔ وہاں کے گورنر نے حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی گواہی کو بنیاد بنا کر طلاق واقع کر دی۔

۵ چونکہ شراب پی کر قصد اس نے نشہ پیدا کیا ہے اور اپنی عقل کو متاثر کر لیا ہے۔ اس لئے اس کا حکم ان لوگوں کا نہ ہوگا، جن کی عقل قدرتی طور پر جاتی رہے اور بطور سزا اس پر طلاق واقع کی جائے گی۔

دوسرے گروہ کے دلائل

دوسرے گروہ کے دلائل یہ ہیں:

۱ حضرت عثمان غنی رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ پاگل اور نشہ باز کی طلاق کو واقع نہیں قرار دیتے تھے۔

۲ طلاق واقع ہونے کا مدار نیت اور ارادہ پر ہے نشہ کی حالت میں چونکہ ارادہ نہیں اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی۔

۳ مجنون بیہوش محبوط العقل سویا ہوا شخص اور کسی جائز چیز کے کھالینے سے نشہ میں بنتلا ہو جانے والے شخص کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی، اس لئے کہ یہ عقل وہوش سے محروم ہیں، اس کا تقاضہ ہے کہ نشہ میں بنتلا شخص کا حکم بھی یہی ہو۔

طرفین کے دلائل پر ایک نظر

دلائل کی اس فہرست سے بظاہر اب اس محسوس ہوتا ہے کہ پہلے گروہ کی رائے زیادہ قوی ہے اور اس کی پشت پر دلائل زیادہ ہیں۔ لیکن تنقیح و تقدیم کے بعد یہ بات عیان ہو جاتی ہے کہ فریقین میں سے کسی کے پاس بھی کوئی صحیح اور واضح نص نہیں ہے اور ہر دو گروہ کی رائے کی اساس اور بنیاد ”قیاس“ ہے۔

پہلا گروہ صفویان بن عمر والطائی کی جس روایت سے استدلال کرتا ہے وہ حد درجہ ضعیف ہے، ابن حزم کے الفاظ میں ”هذا خبر فی غایۃ السقوط“..... اس میں صفویان بن عمر کے ضعف پر اکثر محدثین کا اتفاق ہے۔ اس میں ایک راوی ”باقیہ“ ہیں وہ بھی ضعیف ہیں ایک اور راوی ”غازی بن حبلہ“ ہیں وہ بھی متكلّم فیہ ہیں۔ دوسری حدیث جو ابن عباس رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ بھی ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی عطاء بن عبّان ہیں جن پر ”کذب فی الحدیث“ کی تهمت ہے۔ حافظ ابن قیم نے بھی ان دونوں روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔

دوسرے ان احادیث کے عموم کا تقاضہ تو یہ ہے کہ سوئے ہوئے اور بیہوش آدمی کی طلاق بھی واقع ہو جاتی۔ اور نشہ مباح میں دی گئی طلاق بھی واقع ہو جائے بلکہ پہلی حدیث "لا قیلولة فی الطلاق" کے تحت تو پاگل کی طلاق بھی واقع ہو جانی چاہئے لیکن کوئی فقیہ ان لوگوں کی طلاق واقع قرار نہیں دیتا۔ اس لئے یہ بات مانی پڑے گی کہ اس سے ایسی طلاقوں مراود ہیں جن میں آدمی خود اپنے ارادہ سے الفاظ طلاق کا تلفظ کرے اس طرح حدیثیں تو کسی فریق کے پاس بھی نہیں ہیں۔

اب رہے آثار صحابہ تو یہ مختلف ہیں۔ ایک طرف حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری طرف حضرت عثمان رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواہر نقل کیا گیا ہے اس کی صحت ایک اور وجہ سے بھی مشکوک ہے، قرآن نے عام حالات میں اثبات دعویٰ کے لئے شہادت کا جو نصاب مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو مرد یا کم از کم ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تنہا عورتوں کی شہادت معتبر نہیں لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی شہادت کی بناء پر طلاق جیسے معاملہ کا فیصلہ کر دیا، یہ بات حضرت عمر رضوی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے اول تو آثار صحابہ اس مسئلہ میں مختلف ہیں، دوسرے جو روایت نشہ کی طلاق واقع ہونے کے حق میں ہے وہ ضعف سے خالی نہیں۔

از راہ سزا طلاق کا نفاذ

یہ بات کہ از راہ سزا نشہ کی طلاق کو واقع قرار دیا جائے کئی وجہ سے محل نظر ہے..... علامہ ابن حزم نے بڑے تکمیلے انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ”فرض کرو ایک شخص نے خود کشی کے ارادہ سے اپنے آپ کو پھاڑ سے گرا لیا۔ جان تو نہیں گئی مگر عقل جاتی رہی یا اس نے کسی مسلمان سے لڑائی کی اس لڑائی میں اس کے سر پر ایسی چوٹ آئی کہ دماغی توازن بگڑ گیا۔ اب اگر وہ اس جنون کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا محض اس وجہ سے کہ ایک بدترین معصیت خود کشی اور قتل مسلم کے اقدام کی وجہ سے اس کو جنون ہوا ہے۔ ازاراہ سزا اس کی طلاق واقع کر دی جائے گی۔“

دوسرے شریعت نے شراب کی ایک سزا ۸۰ کوڑے متعین کر دی ہے یہ سزا جرم کی، اسی طرح ایک مکمل سزا ہے جیسے چوری پر ہاتھ کا شنا اور زنا پر کوڑے لگانا یا سنگسار کرنا ہے اب آخر محض اجتہاد کی بناء پر اس مزید ایک سزا کا اضافہ کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ پھر احناف کے یہاں جرم کی وجہ سے کسی عمل کا اصل حکم ساقط نہیں ہو جاتا۔ اس کی

واضح نظر یہ ہے کہ سفر اگر معصیت اور گناہ کا ہو تو بھی ہمارے یہاں مسافر کو وہ تمام شرعی سہوتیں حاصل ہوں گی جو عام مسافروں کے لئے ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ نشرہ نو شی گو معصیت ہے مگر اس صورت میں بھی احکام وہی ہوں جو دوسرے مفقود الحواس اور مخبوط العقل لوگوں کے ہیں اور جس طرح ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی اسی طرح ان کی طلاق بھی واقع نہ ہو۔ یہ پہلو بھی قابل لحاظ ہے ایک زمانہ تھا جب یہوی کو علیحدہ کر دینا شوہر کے لئے سزا تھی کہ مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے نکاح کا مسئلہ آج کی طرح پیچیدہ نہ تھا۔ تعداد دواج کا عام رواج تھا آج کے حالات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ ہندوستانی عورتوں کے مخصوص مزاج کے پیش نظر تعداد دواج ایک شاذ و نادر واقعہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بیانی عورتوں کی دوبارہ شادی کا مسئلہ دشوار ہو گیا ہے۔ یہاں کی غریب عورتوں عموماً خود ملکی اور تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتیں ان حالات میں عملایہ طلاق عورتوں کے لئے سزا بن کر رہ گئی ہے اور صورت حال یہ ہے کہ مردوں دوسرے ہی دن ایک نئی شادی رچالیتا ہے مگر غریب عورتوں ہیں جو تا عمر شوہر کے جرم کا کفارہ ادا کرتی رہتی ہیں۔^۱

ماحوں و حالات کا تقاضہ

اس لئے مسئلہ صرف دلائل کے قوی اور کمزور ہونے کا نہیں ہے، دلائل ہر دو گروہ کے پاس ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کو یکسر مسترد قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ مسئلہ حالات و زمانہ کے تغیر اور اخلاقی اور سیاسی تبدلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے تقاضوں کا ہے۔ جو ملک ”دارالاسلام“ میں داخل ہو وہاں اسلامی قانون نافذ ہو شراب اور نشرہ اور اشیاء کی پیدائش اور خرید و فروخت پر پابندی ہو اور ایسے جرائم پر شرعی حدیں جاری ہوتی ہوں ایک عام آدمی بھی ان کی شناخت سے ناواقف نہ ہو اور کسی آدمی کے لئے کھلے بندوں شراب پینا ممکن نہ ہو پھر اسلامی تعلیمات کے اثر سے جہیز کی لعنت نہ ہو، تعداد دواج کا رواج ہو مطلقہ اور بیوہ کا نکاح کوئی پیچیدہ مسئلہ نہ ہو اور طلاق مرد کے بجائے عورت کے لئے سزانہ بن جاتی ہو، وہاں شراب کی حد جاری کرنا تو یعنی قرین قیاس ہے، ہی ازرا و سرنش طلاق واقع کر دینا بھی بے جا نہیں، بلکہ جرم کے سدِ باب کے لئے عین مناسب ہی ہو!

لیکن ہندوستان اور اس جیسے ممالک میں جہاں نہ اسلامی قانون نافذ ہے، نہ شراب کوئی جرم ہے، نہ اس کی شناخت کا حقہ لوگوں پر عیا ہے، اس کے کاروبار کی کھلی اجازت ہے اور مطلقہ عورتوں کا نکاح ثانی ہندو رسم و رواج کے اثر سے ایک گمبیہ مسئلہ ہے مناسب ہو گا کہ حالت نشرہ کی طلاق واقع نہ قرار دی جائے، جیسا کہ فقهاء کے یہاں ایسے بہت سے احکام ہیں جن میں دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق کیا گیا ہے۔

^۱ مأخوذه از: ”طلاق و تفرقی“ مصنفہ خالد سیف اللہ رحمانی

ہندوستان اور نظام قضاء

ہندوستان میں انگریزوں کے قبضہ سے پہلے تک حکومت گوشائی تھی، مگر معاشرتی مسائل کی حد تک مسلمانوں کے لیے "فقہ اسلامی" ہی نافذ تھی، قضاء اور افقاء کے عہدے قائم تھے، جس کے لیے ملک کے ماہیہ ناز علماء اور ارباب کمال کا انتخاب عمل میں آتا تھا اور مسلمانوں کے عائلی مقدمات (FAMILY CASES) اسلامی قانون کے مطابق فیصل ہوا کرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد حالات یکسر بدل گئے، مسلمانوں کے شخصی قوانین نکاح و طلاق، وراثت، نفقة وغیرہ کے احکام میں ہندوستان کے سیکولر دستور کی رو سے، چون کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنے میں مختار تھے اور "مسلم پرنسپل لا" کے نام سے ان کے "مذہبی قوانین" کا یہ حصہ بھی ہندوستانی قانون میں شامل تھا، اس لیے بڑی حد تک ان مسائل میں ان کو مذہبی آزادی حاصل رہی، مگر ان کے نفاذ کے لیے شریعت نے جو اصول متعین کیے تھے، ہندوستانی قانون میں اس کو برتنے کی گنجائش باقی نہ رکھی گئی۔

مثلاً "فتخ نکاح" (DIVORCE) کا مسئلہ ہے اسلامی قانون کے مطابق "قاضی" بعض حالات میں شوہر کے طلاق سے انکار کے باوجود عورت کا نکاح اس سے توڑ سکتا ہے، لیکن قاضی کا مسلمان ہونا ضروری ہے؛ اگر کوئی غیر مسلم جو انہیں اسباب کو پیش نظر رکھ کر نکاح فتح کر دے تو شرعاً نکاح فتح نہیں ہوگا، وہ عورت اس کی بیوی برقرار رہے گی، اور اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لینا ناجائز اور حرام قرار پائے گا۔ ایسے قوانین کو اسلامی اصول کی روشنی میں حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ "مسلمان قاضی" کا تقرر عمل میں آئے، اسی کی عدالت میں اس نوعیت کے مقدمات دائر ہوا کریں اور وہی کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے فیصلے کرے۔

علماء کی کوششیں

خود انگریزوں کے عہد میں بھی ۱۸۶۲ء تک عدالتوں کے ساتھ ایسے عہدے اور شرعی بخش موجود تھے۔ اس کے بعد حکومتی سطح پر قاضی کا تقرر منسوب ہو گیا، لیکن اس مسئلہ کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر بھی بھی علماء اس سے غافل نہیں رہے اور وہ برابر سیاسی سطح پر بھی اس کی کوشش کرتے رہے؛ چنانچہ ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ء میں مولانا ابو الحasan محمد سجاد رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ باñی امارت شریعہ بہار واژیہ نے "انفارخ نکاح مسلم بل" کے نام سے ایک

قانونی مسودہ مرتب کیا، تمام علماء اور قانون دانوں سے اس پر رائے لی اور جمیعتہ علماء ہند وغیرہ کے پلیٹ فارم سے یہ قرارداد منظور کرائی کہ حکومت اسے قبول کر لے اور مسلمانوں کے ”پرشن مقدمات“ (PERSONAL CASES) کے لیے علاحدہ قاضی کا تقرر کرے، مگر حکومت نے اسے منظور نہ کیا۔

اس کے بعد پھر ۱۹۵۹ء میں مولانا سجاد ہی نے ”نظرت امور شرعیہ بل“ پیش کیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ ہر ریاست میں ایک ”نظر امور شرعیہ“ حکومت کی طرف سے مقرر ہو، وہ اوقاف کا ذمہ دار بھی ہو اور مسلمانوں کے لیے قاضیوں کا تقرر کرے، مگر اس کو بھی حکومت نے قبول نہ کیا، اس کے علاوہ بھی جمیعتہ علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ”کاظمی بل“ اور ”قاضی بل“ مرتب ہوا، مگر برطانوی حکومت کسی طرح بھی اس موقف کی بحالی پر آمادہ نہیں ہوئی اور وہی برطانوی قانون آج تک ہمارے ”آزاد دیش“ کی ”جمهوری حکومت“ کے لیے لائجہ عمل ہے۔

ایک اہم سوال

ان حالات میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”ہندوستانی مسلمان“ کیا کریں، جب کہ ایک طرف ہندوستانی قانون میں ان خصوصی حالات کے لیے کوئی علیحدہ ”شرعی بخش“ قائم نہیں اور دوسری طرف معاملہ کی نوعیت اتنی نگین ہے کہ از روئے شرعیت ایسے نکاح فتح کر دیئے جانے کے باوجود باقی رہتے ہیں، ”غیر مسلم جس“ کا فیصلہ شرعاً معتبر نہیں ہوتا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان لڑکیوں کے لیے کسی دوسرے مرد سے نکاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی تو آخوندگی کا حل کیا ہو؟

کیا ان حالات میں بھی ہمارے لیے اس اہم ”شرعی اصول“ کی اطاعت واجب ہوگی اور ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم بطورِ خود ایک ایسا ”عدالتی نظام“ قائم کر لیں اور ان مسائل میں یہیں سے رجوع ہوا کریں یا اس سیکولر ملک میں ہم شرعیت کے اس اصول پر عمل کرنے سے معدود رہ پڑیں گے، ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم ملک کے موجودہ قانونی موقف پر اکتفاء کر لیں اور ایسے خالص اسلامی قوانین میں بھی ہم اسی عدالت کے فیصلہ کو کافی سمجھیں؟

قرآن کی ہدایت

قرآن نے اس کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ، اس کے رسول اور مسلمان حاکم کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (خدا اور رسول اور اپنے میں سے حاکم کی اطاعت کرو) یہ حکم جہاں ان مسلمانوں کے لیے ہے جو غالب اور بر سر اقتدار

ہوں، وہیں ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اقلیت میں ہوں اور حکومت کی باغ و ڈور ان کے ہاتھوں میں نہ ہو۔

قرآن کا تصور یہ ہے کہ مسلمان اپنے باہمی تنازعات اور آپسی جھگڑوں میں خدا و رسول کو اپنا "حکم" اور "قاضی" (فیصلہ کرنے والا) بنائیں اور غیر اسلامی عدالتوں کی طرف جانے کے بجائے اس اسلامی عدالت سے رجوع کریں، جہاں اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس کی نگاہ میں خدا اور آخوند پر ایمان و یقین کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ دنیا کی "طاغوتی عدالتوں" کے بجائے "اسلامی عدالتوں" کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کے فیصلہ پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ اور دوسری طرف "غیر اسلامی عدالتوں" سے رجوع ہونا "نفاق"، ایمان کی کمزوری اور شیطان کے فریب کا شکار ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے:

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر (حاکم) ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم واقعی اللہ اور آخوند پر ایمان رکھتے ہو، یہی صحیح طریق کا رہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے (اے نبی!) آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔"

اپنے اختلافات اور نزاعی امور میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت خدا و رسول کے احکام "خدا و رسول کے احکام ہونے کی حیثیت" سے نافذ کرنے کا کام کرتی ہو، اس کی طرف رجوع کیا جائے، دنیا کی عام عدالتیں اگر ان قوانین کو نافذ بھی کر دیں تو ان کی حیثیت ہرگز یہ نہیں ہوگی کہ وہ اسے یقین، تقدس، احساسِ ذمہ داری، خدا ترسی، اندیشہ احتساب اور آخوند میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ عمل میں لا میں، جو اس کی اصل روح اور اسلامی اور غیر اسلامی قوانین کا نقطہ امتیاز ہے، وہاں اس کی حیثیت

دنیا کے دیگر قوانین کی طرح محض ایک "قانون" کی ہوگی، خدا اور رسول کے احکام کی نہ ہوگی، یہی دراصل ہندوستان میں "نظامِ دارالقضاء" کے قیام کی اصل روح اور بنیاد ہے!

شاہ عبدالعزیز صاحب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰٰٰ کا فتویٰ

ہندوستان میں جس وقت مسلم حکومت کا ستارہ غروب ہوا اور انگریز اپنی شاطرانہ چال اور عیاری سے تجارت کی منڈیوں سے نکل کر حکومت کے تحت ونایا سے کھیل رہے تھے، خاندان ولی اللہی کا ایک درمند اور بالغ نظر مرد کا رشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰٰ اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظر دور اندیش نے سمجھ لیا کہ اب یہاں سے مسلمانوں کا سیاسی زوال ہوا ہی چاہتا ہے اور "عملی طور پر" اب ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو کام کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دینی اقدار کی حفاظت کے لیے حکومت کے کاموں میں دخل انداز ہوئے بغیر "امارت" اور اس کے تحت "قضاء کا شرعی نظام" قائم کر لیں۔

چنانچہ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے جو فتویٰ دیا، وہ حسب ذیل ہے:

اگر "دارالحرب" میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کوئی "والی" مقرر ہو تو اس کی اجازت سے جمعہ قائم کرنا درست ہے، ورنہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک شخص کو جو امین اور دیانتدار ہو، اپنا سردار قرار دے لیں کہ اسی کی اجازت سے جمعہ اور عیدین کا قیام، ایسے نابالغ بچوں کا نکاح جن کا کوئی ولی نہ ہو، قیمتوں کے مال کی حفاظت، نزاٹی مقدمات میں شریعت کے معین کردہ حصے کے مطابق وراشت کی تقسیم وغیرہ عمل میں آئے؛ نیز امور سلطنت میں کوئی مداخلت اور خلل اندازی بھی نہ کی جائے۔

ماضی کی نظری

ہندوستان کا سقوط کوئی ایسا واقعہ نہیں جس سے مسلمان اپنی تاریخ میں پہلی بار دوچار ہوئے ہوں، عالم اسلام اس سے پہلے بھی ایسے جگر دوز اور دلسوز واقعات سے دوچار ہو چکا ہے اور اس کی سب سے عبرت ناک مثال "مرحوم اندرس" میں مسلمانوں کے زوال کی ہے، جہاں مسلمانوں نے سات سو سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی اور نویں صدی کا آفتاب اندرس میں مسلمانوں کے زوال کا پیغام دے کر غروب ہوا۔ مسلمانوں کی اس سیاسی مغلوبیت اور حکومت کے دور میں علماء نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے جو فتویٰ دیا، وہ یہی تھا کہ اولاً وہ حکومت سے اپنے لیے "محروم اختیارات" کے ساتھ کسی مسلم ولی کے تقرر کا مطالبہ کریں، جو ان کے لیے خود "قاضی شریعت" کے فرائض انجام دے، یا کسی اور کو "قاضی شریعت" مقرر کر دے، ورنہ مسلمان بطور خود کسی کو "والی"

منتخب کر لیں اور وہ یہ کام کرے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مسلمان خود ہی باہمی رضامندی سے "قاضی" مقرر کریں۔

علامہ ابن ہمام رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی کی رائے

وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غالب عليهم، الكفار كفروطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وببلاد الحبشة وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم، يجب عليهم أن يتتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضياً أو يكون هو الذي يقضى بينهم.“^١

تَرْجِمَة: ”جب کسی ملک میں نہ سلطان ہو اور نہ ایسا حاکم جس کی طرف سے قاضی کا مقرر کیا جانا درست ہو، جیسا کہ مغربی علاقوں میں اس وقت قرطبه، بلنسیہ اور جبše شہر ہیں کہ مسلمانوں سے کچھ خراج وصول کر کے یہاں کے حکمرانوں نے یہاں ان کے قیام کو باقی رکھا، تو ایسی صورت میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے ہی میں سے باتفاق رائے ”والی“ مقرر کر لیں، اور وہ ”والی“ یا تو خود مسلمانوں کے تنازعات کا فیصلہ کرے، یا اس کام کے لیے کسی اور کو ”قاضی“ مقرر کر دے۔“

بہزادیہ کی صراحت

فتاویٰ برازپی میں ہے:

"وأما البلاد التي عليها ولاة كفار، فيجوز فيها أيضاً إقامة الجمع والاعياد والقاضي قاضٍ بتأديبه المسلمين، وبمحاسبة ملوكهم طلبوا مسلم، "كـ

تبریز جمکہ: ”جن شہروں پر کفار مسلط ہوں، تو وہاں جمعہ اور عیدین کا قائم کرنا جائز ہے اور وہاں مسلمانوں کی باہمی رضا مندی سے قاضی عہدہ قضاء پر فائز ہو سکتا ہے نیز وہاں مسلمانوں پر واجب ہے کہ کسی مسلمان کو اپنا امیر بنانے کا مطالبہ کریں۔“

ابن حَمِيم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ فِي نَفْتَرِ نَظَرٍ

علامہ ابن حکیم مصری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی: ۹۷۰ھ) فرماتے ہیں:

"وہ ممالک جہاں حکمران کفار ہوں، مسلمانوں کے لیے جمعہ اور عیدین کی اقامت درست ہے اور

وہاں مسلمانوں کی باہمی رضامندی سے مقرر ہونے والا قاضی "قاضی" متصور ہوگا، نیز مسلمانوں پر (حکومت سے) کسی مسلمان "والی" کا مطالبہ کرنا واجب ہوگا۔

دیگر اہل علم

الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ یہی بات ہمیں قاضی ابن ساوه حنفی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى (متوفی ۸۲۳ھ) کے یہاں جامع الفصولین، علامہ طحطاوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے یہاں اور متاخرین جیسے علامہ شامی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وغیرہ کے یہاں ملتی ہے۔ گویا فقہاء حنفیہ قریب قریب اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان اور اس جیسے ممالک میں مسلمانوں پر اپنے نظامِ قضاء کا قائم کرنا شرعاً واجب ہے۔

ماضی بعید کی نظیریں

پھر یہ مسئلہ محض فتاویٰ کی کتابوں میں بند نہیں رہا، بلکہ ہر عہد میں بالغ نظر اور بعض شناس علماء نے اسے برداشتی کی کتابوں میں اس کی نظائر موجود ہیں؛ چنانچہ مشہور عرب سیاح "سلیمان" نے اسلام کے ابتدائی عہد میں ملک چین میں مسلمانوں کے تباہات کے حل کے سلسلہ میں "خانقو" نامی شہر کا ذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہاں "شاہ چین" کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خود مسلمانوں میں سے ایک "حکم" (قاضی) متعین تھا، وہی مسلمانوں کے لیے عیدین اور جمعہ قائم کرتا تھا اور قرآن کے حکم کے مطابق ان کے تباہات کے فیصلے کرتا تھا۔

اہل عراق حکومت کافرہ کے تحت مقرر ہونے والے ایسے مسلمان "والی" کو فارسی زبان میں "ہنرمند" کہا کرتے تھے اور "ابن شہریار" کے سفر نامہ "عجائب الہند" میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے شہر مدراس کے قریب کی ایک جگہ "صیمور" میں مسلمانوں کے لیے "ہنرمن" مقرر تھے، جس کا نام "عباس بن ہامان" تھا۔

اسی طرح مسعودی جس نے ۳۰۲ھ میں ہندوستان کی سیاحت کی ہے، نقل کرتا ہے کہ اس زمانہ میں ہندوستان کے اس جنوبی علاقہ میں غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے "ہنرمن" مقرر تھا، جس کا نام "ابوسعید بن زکریا" تھا۔ یہ "ہنرمن" مسلمانوں کے بیش اور امیر ہوتے تھے اور مسلمان ان کے احکام ماننے کے پابند تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اپنی کتاب "عرب و ہند کے تعلقات" میں ان شواہد کو نقل کیا ہے۔

برطانوی عہد میں نصب قاضی

ہمارے ملک ہندوستان میں بھی "برطانوی حکومت" کے آغاز کے ساتھ ہی علماء نے صرف فتویٰ ہی دینے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس پر شور اور ہنگامہ خیز دور میں بھی برابر اس شمع کو روشن رکھنے کے لیے کوشش رہے؛ چنانچہ حضرت "سید احمد شہید رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ" نے اپنے عہد امارت میں "مولانا عبد الحمیڈ صاحب رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ" کو اور " حاجی امداد اللہ مہاجر کی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ" (متوفی: ۷۱۳۴ھ) نے "مولانا شیداحمد گنگوہی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ" کو اپنے مدد و "حلقة امارت" میں قاضی نامزد کیا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن محمد سجاد رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْهِ (۱۲۹۹-۱۳۵۹) ہیں۔ انہوں نے ملک گیر سطح پر برطانوی عہد میں "نظام قضاء" کے قیام کی مہم چلائی، تمام بزرگوں نے ان کی تائید کی اور صوبہ بہار میں انہوں نے اس کی عملی مثال بھی قائم فرمادی۔

پس چہ باید کرو؟

قرآن و حدیث کی ان تعلیمات، فقهاء کی صراحتوں اور بزرگوں کے اس طرزِ عمل سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مخفی اس بنا پر کہ ہندوستان میں برساقدار نہیں ہیں اس فریضہ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایسا "شرعی نظام قضاء" قائم کرنا ایک مذہبی فریضہ ہے، اگر ہم نے اس سے غفلت کی تو عند اللہ ان بہت سے لوگوں کی بابت ہم سے باز پرس ہو گی جو ایسی "شرعی عدالت" کے نہ پائے جانے کی وجہ سے "غیر شرعی عدالتوں" کی طرف رجوع ہوئے اور ان عالمی مقدمات میں بھی وہاں کے فیصلے اپنی زندگی میں نافذ کیے، جن میں "غیر مسلم جنس" اور "غیر اسلامی عدالت" کا فیصلہ معتبر نہیں ہے، ان کے نکاح شریعت کی نگاہ میں غلط تھہرے اور ان کی ازوای جی زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ناروا اقرار پائی۔

بعض گوشوں سے اس سلسلہ میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں "نظام قضاء" کا قیام کیسے ممکن ہے؟ جب کہ قانونی اعتبار سے ایسے "قاضی" کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی قوت ہی حاصل نہیں ہے، یہ فیصلے ظاہر ہیں "قضاء" میں نافذ نہیں ہوں گے، انسانوں ہی پران کا نفاذ ہو گا اور ان انسانوں میں بہر حال سرکش اور دین سے غافل لوگ بھی ہوں گے، اگر وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں تو "دار القضاۃ" کے پاس اس کا کیا حل ہو گا؟

اصل چیز ایمانی قوت ہے!

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے احکام الہی کی اطاعت کے لیے "قوت" کو شرط قرار نہیں دیا ہے، بلکہ آخرت کی جوابدی اور اللہ پر ایمان و یقین کو اس کا مدار تھہرایا ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾^{۱۶}

ترجمہ: ”اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔“

ہم اگر اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل واجب ہے اور آخرت میں اس معاملہ میں ہم عند اللہ مسؤول ہوں گے، تو اس کا اولین تقاضا ہے کہ ہم ایک ایسا نظام قائم کر کے اس کی راہ کھول دیں اور اپنے مقدور بھر اس فریضہ کو انجام دے کر اپنی ذمہ داری ادا کریں!

ہم نے اگر اخلاق ولثہت کے ساتھ شریعت کی اطاعت کی ایسی راہ کھول دی تو انشاء اللہ اندیشوں کی یہ ساری گھنٹن خود دور ہو جائے گی اور لوگ اپنی گردنیں خود ختم کر دیں گے۔ جو قوم اپنے دینی اقدار اور ”شریعت“ کے نام پر سخت ترین فکری، نظری اور سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال سکتی ہے اور ”مسلم پرستل لا“ کی حفاظت کر سکتی ہے، آخر اس سے اس مایوسی کا کیا جواز ہے کہ اگر اس پر شریعت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ گوشہ واضح کیا جائے، ”نظام قضاء“ کی حقیقت سمجھائی جائے اور بتایا جائے کہ یہ ”اسلامی قوانین“ بھی ”نظام دار القضاۓ“ اور ”مسلمان قاضی“ کی عدم موجودگی کی وجہ سے غیر اسلامی بن گئے ہیں تو وہ اس کے سامنے اپنی گردنی ختم نہ کر دے اور مسلم معاشرہ میں ایک ایسا ماحدوں اور ایک ایسی فضاء تیار نہ ہو جائے کہ اس میں سانس لینے والے از خود اس کے سامنے جھک جانے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں۔

ممکن ہے کہ اس بات کو ”ذہبی خوش گمانی“ سمجھا جائے، مگر آج یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جو تجربات کی منزل سے گذر جکی ہے، خود ہمارے ملک ہندوستان میں کئی سالوں سے بھار واٹریس میں دار القضاۓ کا نظام قائم ہے، جس سے دس ہزار مقدمات فیصل ہو چکے ہیں، مالیگاؤں، دیوبند، خورجہ، آگرہ، اور ٹک آباد، حیدر آباد اور بنگلور وغیرہ مختلف مقامات پر اس کام کا عملی تجربہ ہو چکا ہے، آج وہاں قاضی مقرر ہیں، ان کی عدالت میں مقدمات آتے ہیں اور اکثر سرکاری عدالتوں کے مقابلہ مسلمان ان عدالتوں کو زیادہ قدر و منزلت اور تقدس و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں تجربات کی روشنی نے ان وہنڈکوں کی قباقاک کر دی ہے اور ماحدوں خود بخود اس کے لیے سازگار ہوتا جا رہا ہے۔

قوتِ نافذہ کی فقہی حیثیت

بعض اہل علم کو اس مسئلہ پر ”فقہی اعتبار“ سے بھی اشکال ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب تک ایسا اقتدار اور

قانونی تحفظ حاصل نہیں ہو کہ قاضی کا فیصلہ بے قوت نافذ کیا جاسکے، نظامِ قضاء کا قیام جائز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشکال فقہاء کی تصریحات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قضاء کی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ کسی واقعہ کی تحقیق کر کے قاضی فیصلہ کر دے کہ فریقین کو کیا کرنا چاہیے، خسی طور پر اس فیصلہ کو نافذ کرنا قاضی کا کام نہیں، یعنی فقہاء کی اصطلاح میں اس کا کام "انشاء حکم" ہے نہ کہ "تفصیل حکم"۔ غور کرو کہ قاضی کا فیصلہ بعض اوقات خود امیر کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ امیر پر بے قوت اپنے احکام کو جاری کر سکے؟ چنانچہ قاضی علاء الدین طرابلسی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا بیان ہے:

"فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له الا الا نشاء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما"۔^۱

ترجمہ: "قاضی کا فریضہ بحیثیت قاضی صرف انشاء حکم ہے، قوت تنفیذ فریضہ قضاء سے زائد امور ہے۔"

ای کو علامہ قرآنی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے دوسرے طریقے پر بیان فرمایا ہے۔ قرآنی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا خیال ہے کہ کسی پر حکم لازم قرار دینے کی دو صورتیں ہیں: ایک الزام معنوی اور دوسرے الزام حسی، فیصلہ کر دینا الزام معنوی ہے اور فیصلہ کو بے قوت نافذ کر دینا الزام حسی ہے، قضاء کی حقیقت الزام معنوی ہے نہ کہ الزام حسی۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

"وأما الا لزام الحسنى من الترسيم والحبس فليس بحكم، لأن الحكم قد تعجز عن ذلك."^۲

ترجمہ: "الزام حسی یعنی قید وغیرہ تو یہ قضاء میں داخل نہیں، اس لیے کہ قاضی بعض اوقات اس سے عاجز ہوتا ہے۔"

اس لیے ہندوستان میں قوت نافذہ کے مفقود ہونے کا شہہ اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو نصب قاضی کے فریضہ سے سبکدوش قرار دینا سمجھ میں نہیں آتا۔

جن حضرات کے نزدیک "قوت نافذہ" کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں نظامِ قضاء قائم نہیں کیا جاسکتا، انہوں نے اس کے تبادل کے طور پر شرعی پنجاہیت کے قیام کا مشورہ دیا ہے؛ لیکن شرعی پنجاہیت کے قیام میں متعدد شواریاں ہیں:

① اول یہ کہ شرعی پنجاہیت جس کو فقہاء مالکیہ نے "جماعتہ اُسلُمِین" سے تعبیر کیا ہے، اس جماعت کا قیام اور اس

کافیصلہ اسی وقت معتبر ہے، جب کہ قاضی موجود نہ ہو، اگر قاضی موجود ہو تو جماعتِ اسلامیں کا حکم باطل ہے۔ چنانچہ علامہ الفابی شیرازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى مفتی مالکیہ مدینہ منورہ فرماتے ہیں:-

”وَإِنْ رَفَعْتَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِيِّ بَطْلُ الْحُكْمِ“^{۱۶۰}
تَرْجِيمَهُ: ”اگر عورت قاضی کے ہوتے ہوئے جماعتِ اسلامیں کے پاس اپنے معاملہ کو لے جائے تو فیصلہ باطل ہو گا۔“

اور علامہ سعید بن صدیق فلاتی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى رقم طراز ہیں:

”أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ لَا نَهْمُ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاكِمِ الْعَدْلُ عِنْدَ عَدْمِهِ“^{۱۶۱}
تَرْجِيمَهُ: ”او جماعتِ اسلامیں عادل قاضی کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔“

لہذا اگر کسی علاقہ میں فقهِ خنفی کے مطابق قاضی موجود ہو تو وہاں نہ جماعتِ اسلامیں کی طرف رجوع کرنا جائز ہے اور نہ ان کا فیصلہ معتبر ہے۔

❷ قاضی کے بجائے محکمہ شرعیہ (جماعۃ اُسلیمین) کی ہر طرف اس لیے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو قدرتِ نافذہ حاصل نہیں؛ لیکن خود مالکیہ کے یہاں قولِ راجح یہی ہے کہ قضاۓ کے لیے قوتِ تخفیف ضروری نہیں۔ اس سلسلہ میں علامہ قرافی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى جیسے بلند پایہ مالکی فقیہ کی صراحت گز رچکی ہے؛ جسے فن قضاۓ کے معروف مالکی عالم ابن فرحون مالکی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى نے اپنی کتاب ”تبصرۃ الحکام“ میں نقل کیا ہے۔ اس سے مالکیہ کے نزدیک اس قول کا معتبر و مستند ہونا ظاہر ہے؛ چنانچہ مولانا تھانوی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى کے استفتاء پر شیخ عبد اللہ فوئی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى مدرس حرم نبوی نے جواب دیا ہے، وہ یہی ہے کہ قوتِ نافذہ نصب قاضی کے لیے شرط نہیں۔

”أَنَّهَا لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحَّةِ لِلْقاضِيِّ“^{۱۶۲}
تَرْجِيمَهُ: ”قضاۓ کے صحیح ہونے کے لیے قوتِ نافذہ شرط نہیں ہے۔“

توجب فقهِ خنفی میں بھی قضاۓ کے لیے قوتِ نافذہ ضروری نہیں اور فقہاء مالکیہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے تو گویا ہندوستان میں نظامِ قضاۓ کا قیام ممکن ہے اور جب نظامِ قضاۓ کا قیام ممکن ہے تو مالکیہ کے مسلک پر بھی جماعتِ اسلامیں کی گنجائش نہیں اور اگر بالفرض مسلک مالکیہ پر ہندوستان میں نظامِ قضاۓ قائم نہیں کیا جا سکتا اور فقهِ خنفی کی رو سے کیا جا سکتا ہے تو یہ کسی مناسب ضرورت کے بغیر ایک نفع سے دوسری فقہ کی طرف عدول ہو گا، جس سے

اجتناب واجب ہے۔

۲) جہاں تک عملی وقت و مشکلات کی بات ہے تو جیسے قاضی قوتِ نافذہ سے محروم ہے دیسے ہی مجلس اسلامین بھی اس قوت سے محروم ہے، تو ظاہر ہے کہ ملکہ شرعیہ کی طرف رجوع کرنے سے مسئلہ کو حل کرنے میں کوئی سہولت نہ ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات بڑھ جائیں گی۔

۳) جماعتِ اسلامین کے سلسلہ میں مالکیہ کا تصور یہ ہے کہ یہ محض وقتی طور پر چند افراد کی ایک جماعت بن جائے، جو کسی پیش آمدہ مقدمہ کا فیصلہ کر دے اور اس کے بعد خود بخود یہ مجلس تحلیل ہو جائے گی، اس جماعت کی حیثیت مستقل عہدیدار کی نہ ہوگی، کہ ہمیشہ اس کے پاس معاملہ لایا جائے اور وہ قاضی کی طرح مقدمات کی سماعت اور فیصلے کرے۔

غور فرمایا جائے کہ کیا ایسی وقتی پنچانت مسلمانوں کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے؟ اور اگر چند افراد کو باضابطہ ان کے لیے مقرر کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ فقه مالکی کے مطابق نہ ہوگی۔ چنانچہ علامہ صالح تونسی مالکی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی مدرس حرم بنوی فرماتے ہیں:

”فَإِنْ حَكِمَ هَاتِهِ الْجَمَاعَةُ خَاصًا بِهَا تِهَمَّةً حَتَّى لَوْ حَدَثَتْ فِي الْوَقْتِ أَوْ عَقْبَهُ غَيْرُهَا فَرَفَعَتْ لِغَيْرِهِمْ جَازَ، فَلِمَنْ نَصَبَهَا مُسْتَمِرًا حَتَّى، كَمَا يَفْهَمُ مِنْ فَحْوِي السُّؤَالِ الْمُقْرَرِ“^۱

ترجمہ: ”اگر یہ جماعت کسی خاص واقعہ کے بارے میں فیصلہ کر دے، پھر اسی وقت یا اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آئے اور عورت ان کے بجائے دوسرے لوگوں کے پاس معاملہ کو لے جائے تو جائز ہے، اس لیے کہ اس جماعت کے ارکان مستقل اور ہمیشہ کے لیے متعین نہیں ہوتے، جیسا کہ سوال سے محسوس ہوتا ہے اور جیسا کہ تیرے سوال سے واضح ہے۔“

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جہاں کہیں محاکم شرعیہ قائم کی گئی ہیں، وہاں ان کی حیثیت مستقل ادارہ کی ہو گئی ہیں اور محاکم شرعیہ کے ارکان بالکل قاضی کی طرح متعین اور مقرر ہیں۔ ظاہر ہے یہ خود فقه مالکی کی تصریحات سے انحراف ہے۔

۴) جماعتِ اسلامین کے قاضی کے قائم مقام ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں؛ جن کو فقہاء مالکیہ کے فتاویٰ سے اخذ کر کے مولانا اشرف علی تھانوی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے اس طرح نقل فرمایا ہے:

۱) کم از کم تین آدمیوں کی جماعت ہو، ایک یا دو آدمی فیصلہ کریں تو وہ معترنہیں۔

۲ اس جماعت کے تمام ارکان کا "عادل" ہونا شرط ہے اور عادل وہ شخص ہے جو تمام کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغار پر مصر نہ ہو اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہو تو فوراً توبہ کر لیتا ہو؛ لہذا سود خوار اور رشتہ لینے والا، ڈاڑھی منڈانے والا، جھوٹ بولنے والا اور بے نمازی اس جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔

اگر بد قسمتی سے کسی جگہ کے بااثر لوگ دیندار نہ ہوں تو یہ تدبیر کر لی جائے کہ وہ بااثر اشخاص چند دینداروں کو اختیار دیدیں، تاکہ شرعاً فیصلہ کی نسبت دیندار جماعت کی طرف ہو اور ان بااثر اشخاص کو کوشش کا ثواب حاصل ہو جائے۔

فیصلہ میں علماء کی شرکت لازم اور شرط ہے، صرف عوام کی جماعت کا فیصلہ حکم قاضی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا؛ اس لیے اولاً تو یہ چاہیے کہ جماعت کے سب ارکان اہل علم ہوں اور اگر یہ میسر نہ ہو تو کم از کم ایک معاملہ فہم عالم کو ضرور جماعت کا، کن بنائیں اور دوسرے ارکان معاملہ کے تمام پہلوؤں کو ان عالم سے خوب سمجھ کر رائے قائم کریں، اور اگر کسی جگہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ لازم ہے کہ جماعت کے ارکان معاملہ کی روئاداً مکمل کر کے علماء محققین سے ہر ہر جزئی کا حکم دریافت کریں اور جوان کافتوںی ہو اس کے موافق فیصلہ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا بلکہ عوام نے محض اپنی رائے سے فیصلہ کر دیا تو وہ حکم نافذ نہ ہوگا اور فیصلہ بالکل بے کار اور غیر معتبر ہے گا، اگرچہ وہ فیصلہ شریعت کے موافق بھی ہو۔

چوہی شرط یہ ہے کہ جماعت مسلمین کے سب ارکان متفقہ فیصلہ دیں، اگر رائے مختلف رہے اور کثرتِ رائے کی بنا پر فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ فیصلہ معتبر نہ ہوگا، پس اگر ارکان میں اختلاف رہے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے۔

غور فرمائیے کہ آج کل توضیع کی سطح پر بھی ان صفات سے متصف "عادل قاضی" کا دستیاب ہونا آسان نہیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ایسے باکمال تین افراد کا حصول کس قدر شوار ہے؟ حفیہ کے یہاں تو قاضی کے لیے عادل ہونا بھی شرط نہیں، گو غیر عادل کو قاضی مقرر کرنا باعث گناہ ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ دوسرے فقهاء کے یہاں تو فیصلہ کے نفاذ کے لیے اس کا عادل ہونا شرط ہے۔ اس لیے قاضی کے تقریبی کام سلسلہ دشوار ہے، چہ جائیکہ جماعت اسلامیہ کی تحریکیم کا۔

پھر ایسی حاکم شرعیہ میں جو باضابطہ مقرر اور متعین نہ ہوں، جیسا کہ فقهاء مالکیہ کی رائے ہے، ہر جگہ عالم دین کا حاصل ہو جانا اور وہ بھی ایسا عالم دین جو فقہ و فتاویٰ سے تعلق رکھتا ہو اور جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے احکام سے

باخبر ہو، دشوار ہی نہیں دشوار تر ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ان اركان کا فیصلہ متفق علیہ ہو، محلہ اور گاؤں کے وہ چند آدمی جو حکم اور فتح کی حیثیت سے ایک خاص معاملہ کی بابت جمع کیے گئے ہوں اور فریقین نے ان پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہو، عادتاً ان سے یہ توقع بہت دشوار ہے کہ جادہ انصاف پر قائم رہ سکیں اور بالکل غیر جانبداری کے ساتھ ایک فیصلہ پر راضی و متفق ہو جائیں گے، وہاں تو فیصلہ کرنے والوں کی پوزیشن قاضی سے زیادہ اپنے فریق کے ترجمان اور نمائندہ کی ہو کر رہ جاتی ہے۔

اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کی جماعتِ اسلامیہ کے قیام کی نہ ضرورت ہے، کیونکہ خود فقہِ حنفی میں اس کا حل موجود ہے اور نہ فقہِ مالکی کی تفصیلات کے مطابق شرعی پنچاہیوں کا قیام ممکن ہے، بلکہ اس کی دشواریاں اور مشکلات چندال زیادہ ہیں!

علماءِ ہند کی رائیں

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے "الحیلۃ الناجزۃ" میں اگرچہ اسی تحریکیم کی تجویز پیش کی ہے، مگر عام طور پر دیوبند، فرنگی محل اور دہلی کے علماء نے دارالقضاء کے قیام کا فتویٰ دیا ہے؛ چنانچہ مولانا محمود حسن دیوبندی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى (شیخِ الہند) نے سالانہ اجلاس دوم جمعیۃ علماء ہند برمقامِ دہلی ۱۹۲۰ء، مولانا حبیب الرحمن عثمانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اجلاس گیا ۱۹۲۲ء، علامہ سید سلیمان ندوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے خطبہ صدارت اجلاس کلکتہ ۱۳۲۲ھ اور مولانا سید حسین احمد مدینی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اجلاس جو پور ۱۳۹۵ میں دارالقضاء کے قیام کے تجویز پیش کی ہے، مولانا ابو الكلام آزاد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور مولانا حفظ الرحمن سیواہروی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے امارت شرعیہ کے بعض اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دارالقضاء کی توثیق کی ہے، اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، مولانا عبد الباری فرنگی محلی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے مختلف موقعوں پر "نظام قضاء" کے قیام کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے اور اپنے وقت کے ان زمینے ملت میں سے کسی نے بھی اس قسم کی "مجلسِ اسلامیہ" کے قیام کی تحریک نہیں فرمائی ہے۔ نیز ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرنسل لا بورڈ نے جو ہندوستانی مسلمانوں کے سوا داعظم کی نمائندگی کرتا ہے اپنے متعدد اجلاس میں مسلمانوں کو نظامِ قضاء کے قیام کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے نظامِ قضاہی ہندوستان میں مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کا حقیقی حل ہے۔

برادران اسلام کے نام!

آخر میں مسلمان بھائیوں سے عرض ہے کہ وہ ایسی اسلامی عدالتوں میں اپنے تازعات پیش کرنا "مذہبی فریضہ" سمجھیں اور شریعت کا فیصلہ چاہے ان کے ذاتی مفادات اور مصالح کے خلاف کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سرتسلیم ختم کر دیں۔ جب تک ایک شخص ایسے موقعوں پر اپنے منافع کی قربانی گوارانہیں کرتا اور اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا، قرآن کی زبان میں وہ شخص "مؤمن" نہیں ہے۔

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيَنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^{۱۷}

ترجمہ: "آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو باہمی اختلافات میں "حکم" نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور سرتسلیم ختم کر دیں۔"

اور ظاہر ہے رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد آپ کو حکم بنانے کی صورت یہی ہے کہ اس "عدالت کو حکم" تسلیم کر لے جو آپ ﷺ کے احکام کے مطابق مسائل کا فیصلہ کرتی ہو۔ اللہ و رسول کے فیصلے کے بعد ایک مسلمان کو ذرا بھی اختلاف اور انحراف کا اختیار باقی نہیں رہتا اور اس سے انحراف معصیت اور گمراہی کے مترادف ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا لَا مُبَيِّنًا﴾^{۱۸}

ترجمہ: "خدا اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے ان کے معاملات میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو سخت گمراہی میں پڑ گیا۔"

یہ جہاں ایک مذہبی فریضہ ہے، وہیں مصالح کا تقاضا بھی ہے۔ سرکاری عدالتوں میں فیصلوں میں جوتا خیر اور تعطل پایا جاتا ہے اور پھر انصاف چاہئے والوں کو جتنی مالی گران باری سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ایسے دارالقضاء ان سے نجات دلا سکتے ہیں۔

امید ہے کہ علماء کرام اور اہل نظر بھی اپنے اپنے حلقوں میں مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کریں گے اور ان کو اس عدالت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیں گے۔

"وَمَا أَرِيدُ إِلَّا الصَّالِحَ وَاللَّهُ هُوَ الْمُوْقِنْ"

تعزیر مالی کا مسئلہ

اسلامی حکومت اور اسلام کے قانونِ حدود و تعزیرات کے فقدان کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ اکثر مسلم اکثریت کے ممالک میں بھی پیچیدہ اور دشوار ہو گئے ہیں، مثلاً طلاق کے بے جا استعمال، مطالبه جبیز، شادی میں منکرات اور فوافش کے رواج اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مقامی انگمنیں، ادارے اور تنظیمیں اس کے سد باب کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور جرمائے وغیرہ مقرر کرتی ہیں، تو اس کے خوشنگوار نتائج سامنے آتے ہیں اور ان کے لیے اس سرزنش کے سوا کوئی دوسری شکل عملًا ممکن بھی نہیں ہوتی، کیوں کہ اگر وہ جسمانی سرزنش کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو اس سے بڑے فتنوں کے درآنے کا احتمال رہتا ہے۔ یوں بھی عملًا اس زمانہ میں "مالی تعزیر" کی بڑی کثرت ہو گئی ہے اور ریلوے، بس، ٹرینیک، وغیرہ میں کثرت سے اس کا تعامل ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورت جائز ہے؟ امام ابوحنیفہ، امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور بعض حضرات کی روایت کے مطابق امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے ساتھ اس کو جائز نہیں قرار دیتے؛ اس لیے کہ یہ کسی سبب شرعی کے بغیر ایک مسلمان کا مال لے لینا ہے۔ "اذ لا يجوز أخذ مال مسلم" البتہ امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے تعزیر مالی کی اجازت دی ہے۔ "وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال" بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے۔ "وبه قال مالك" تاہم امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے مسلک کی بعض خفی مصنفین نے توضیح کی ہے کہ یہ جرمائے محض وقتی طور پر ازراہ و حکمی لیا جائے گا، نہ خود سلطان لے گا اور نہ بیت المال میں داخل کرے گا، بلکہ مدت کے بعد واپس کر دے گا۔

"إمساك شيء من ماله عنه مدة لينز جر ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه
الحاكم لنفسه أول بيت المال" ۷

۷۔ حاشیہ شیخ احمد بن محمد صاوی مالکی علیٰ ہامش الشرح الصغیر: ۴/۴، ۵/۵

۷۔ فتح القدير: ۱۱۲ دار احياء التراث العربي، تبیین الحفاظ: ۲۰۸/۳

۷۔ فقه السنة: ۹۹۲/۳ تبیین الحفاظ: ۴/۵

انکار کی وجہ

جو لوگ تعزیر مالی کے قائل نہیں ہیں، ان کی پیش نظر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال یا تو اس کی خوشی اور رضامندی سے لینا جائز ہے یا پھر اس وقت لیا جاسکتا ہے جب کوئی حق اس کے ذمہ ہو۔ ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ کا مفہوم یہی ہے۔ تعزیر مالی میں نہ اس شخص کی رضامندی کو دخل ہے جس سے مال لیا جا رہا ہے اور نہ کوئی دلیل شرعی موجود ہے، جس سے اس کا جواز پیدا ہو سکے، اس لیے یہ صورت درست نہیں۔

تعزیر مالی کے دلائل و نظائر

جن امور سے مالی تعزیر کے جواز پر استدلال کیا جاسکتا ہے (گو کہ ان میں اکثر اس مسئلہ کے لیے صریح نہیں ہیں، بلکہ ان سے استثنیاً سی کیا جاسکتا ہے) وہ یہ ہیں:

❶ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنا مال اجر کی نیت سے ذے، اس کے لیے اجر ہے اور جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا، تو میں زکوٰۃ بھی لوں گا اور اس کے مال میں سے کچھ حصہ بھی بے طور تاوان لے لوں گا، جو میرے پروردگار کی جانب سے ہو گا، البتہ ان میں سے کچھ میری آل کے لئے حلال نہیں ہوگا۔ ”من أَعْطَى مَالَهُ مَوْجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا أَخْذُهَا وَشَطَرَ مَالَهُ غَرْمَةٌ مِّنْ غَرَمَاتِ رِبَّنَا عَزَّوَجَلَّ لَّيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِّنْهَا شَيْءٌ“۔^۱

❷ عبد الرحمن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بن حاطب بن أبي ب tuttoع کے غلاموں نے ایک اونٹ چرا کر ذبح کر دیا جس کا چجز اور سران کے پاس پایا گیا۔ لوگ حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس معاملہ لائے۔ آپ نے پہلے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، پھر تھوڑی دیر سوچ کر غلاموں کو طلب فرمایا اور عبد الرحمن رَحْمَةُ اللَّهُ تَعَالَى سے کہا: میں کہتا ہوں کہ تم ان سے کام بھی لیتے ہو اور ان کو بھوکا بھی رکھتے ہو اور بدسلوکی کرتے ہو، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی حرام چیز بھی پالیں تو ان کے حق میں حلال ہو جائے، پھر اونٹ والے سے دریافت کیا کہ تم اونٹ کتنی قیمت میں دے سکتے تھے؟ اس نے کہا: چار سو درهم میں۔ حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عبد الرحمن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: تاوان کے ساتھ آٹھ سورو پے ادا کرو۔ ”قَرْ فَاغْرِمْ لَهُمْ ثَمَانٌ مَّاَةٌ درْهَمٌ وَ فِي رِوَايَةٍ لَا غَرَّ مِنْكُمْ غَرْ ما يُشْقَ عَلَيْهِ فَاغْرِمْ مِثْلِي قِيمَتِهَا“۔^۲

یہ روایت اور اثر مالی تاوان کے باب میں بالکل صریح ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاوان وصول

سلہ البقرہ: ۲۳ ۱۔ ابو داؤد، باب زکوٰۃ السانمه نسانی، باب عقوبة مانع الزکوٰۃ: ۲۳۵/۱، معنا

۲۔ مصنف عبدالرزاق: ۲۳۹/۱۰، المحتلی: ۱۵۷، المغنی: ۷۹۵/۷

کر کے دوبارہ واپس بھی نہیں کیا جائے گا۔

۳ آپ ﷺ نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم فرمایا کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والوں کے سامان جلاذ الواران کی پٹائی بھی کرو۔ ”حرقو امتاع الغال واصربو“ اسی حدیث کی روشنی میں حسن بصری رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ کا خیال ہے کہ جانور اور قرآن مجید کو چھوڑ کر ایسے شخص کے تمام اسباب جلا دیئے جائیں گے۔ امام احمد اور اسحاق رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ بن راہب ویہ کہتے ہیں کہ غنیمت کا چھپایا ہوا مال نہیں جلایا جائے گا، کہ وہ تو مجاہدین کا حق ہے، بقیہ سامان جلا دیا جائے۔ قریب قریب یہی رائے امام اوزاعی رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ کی بھی ہے امام ابوحنیفہ، مالک اور شافعی رحمہمَا اللہُ تَعَالَیٰ کے یہاں حدیث کا ظاہری معنی مقصود نہیں ہے، تهدید پر محول ہے۔ آپ ﷺ کا ایسے شخص کے سامان کو جلانے کا حکم دینا ایک طرح کی مالی سرزنش ہی ہے۔

۴ ان صراحتوں کے علاوہ شریعت میں تعزیر مالی کی مختلف نظیریں بھی ملتی ہیں:
حقوق اللہ میں تعدی اور زیادتی پر مالی تعزیر کی نظیر ”کفارات“ ہیں، جو قصد اروزہ توثیق کے قسم کھا کر پوری نہ کرنے اور قتل خطا کی صورت میں واجب ہوتے ہیں اور جن میں ایک غلام آزاد کرنا یا مساکین کی ایک خاص تعداد کو کھانا کھلانا ”مالی سزا“ شمار کی جاسکتی ہے۔

۵ کسی انسان کے ساتھ ایسی تعدی پر جس کا تعلق جسم سے ہو، تعزیر مالی کی نظیر دیتی ہے، جو ایسی تمام صورتوں میں واجب ہوتی ہے جب فریقین باہمی رضامندی سے اس پر آمادہ ہو جائیں یا جب تھاں کا اجراء ممکن نہ ہو۔

۶ غیر مادی حقوق میں تعدی پر ”مالی تعزیر“ کی نظیر ”کفارة ظہار“ ہے، اس لیے کہ ظہار کی بنا پر مرد اپنی بیوی کو ہم بستری سے محروم رکھ کر اس کو اس کے جنسی حقوق سے محروم کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بدگونی کر کے اس کی ہتک حرمت کرتا ہے، کفارۃ ظہار اسی کی سزا ہے جس میں غلام کو آزاد کرنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔

۷ مالی حقوق میں تعدی کی بنا پر مالی سرزنش کی نظیریہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا سامان چرا لے اور وہ اس کے پاس محفوظ بھی نہیں رہ سکے، تو فقهاء کا اتفاق ہے کہ اصل سزا تو یہ ہے کہ ہاتھ کا لے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو اس سے سرقہ شدہ سامان کا تباوان وصول کیا جائے گا۔ ”والغرم اذا لم يجب القطع“۔

۸ آبروریزی اور ہتک حرمت پر تباوان مالی کی نظیریہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے جبراً ناکر لے تو اس

سلہ ابو داؤد عن عمرو بن شعیب: ۹۲

سے النساء: ۹۲

سلہ المائدہ: ۸۹، باب عقوبة الغال

سے النساء: ۹۲

نوث: قتل کا ارادہ کیے بغیر غلطی سے قتل کے موقع کو ”قتل خطا“ کہتے ہیں۔

سلہ المجادلہ: ۲

سلہ برایۃ المجنہد: ۴۵۲/۲

شہ بیوی کو محروم شدہ دار کے قابل ستر حصہ سے تشیہ دینے کو کہتے ہیں۔

سے عورت کو مہر کی رقم دلائی جائے گی۔^۱

● اسی طرح ذہنی طور پر کسی کو پریشان کرنے پر مالی سرزنش کا بھی فقہاء کے یہاں فی الجملہ تصور ملتا ہے، چنانچہ وہ عورت جس کا مہر متعین ہوا، وخلع سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آجائے تو امام ابو حنیفہ و شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُ دُونُوْبُ هِیَ کے یہاں متعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تمام مطلقہ عورتوں کے لیے امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُ کے یہاں واجب ہے اور صاحب ہدایہ کے حسب تحریر امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چوں کہ شوہر نے یہوی کو داعی فراق دے کر وحشت میں بٹلا کیا ہے، اس کے بدله میں متعہ دلایا جائے۔ ”لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها بالفرق“ واضح ہو کہ متعہ کا ثبوت خود قرآن سے ہے: ﴿وَلِلْمُمْطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُ اس کو وجوہ پر محول کرتے ہیں اور احناف اسکیا پر۔

اسی طرح جھوٹی شہادت و گواہی کی بناء پر بھی بعض صورتوں میں فقہاء نے گواہوں پر تاو ان عائد کیا ہے۔ ہر چند کہ یہ نظائر اس مسئلہ میں صریح نہیں ہیں، تاہم ان سے شریعت کے مزان اور اس کی روح کا اندازہ ہوتا ہے اور ان پر دوسری تعزیرات کو قیاس کیا جاسکتا ہے، البتہ ابتداء میں جو حضرت عمر رضوان اللہ علیہ عنہ کا فیصلہ نقل کیا گیا ہے، کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں بے غبار دلیل ہے، اس لیے اگر موجودہ زمانے میں اور بالخصوص ہندوستان کے خصوصی حالات میں اس کو قبول کر لیا جائے تو امید ہے کہ بہت سے مکرات کے سد باب میں اس سے مدد ملے گی اور اس سے فائدہ ہو گا۔

حافظ ابن قیم رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُ بھی تعزیر مالی کے قائل ہیں اور قضاۓ کے موضوع پر ”معین الحکام“ کے فاضل مصنف قاضی علاء الدین طرابلسی رَحْمَةُ اللَّهِ لَعَلَّكُ بھی اسی کے قائل ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْعِقْوَبَةَ الْمَالِيَةَ مَنْسُوخَةً فَقَدْ غَلَطَ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَئمَّةِ نَفْلًا وَ إِسْتَدْلَالًا وَ لَيْسَ بِسَهْلٍ دُعْوَى نَسْخَهَا وَالْمَدْعُونُ لِلنَّسْخِ لَيْسَ مَعْهُمْ سَنَةٌ وَ لَا إِجْمَاعٌ يَصْحَحُ دُعَوَاهُمْ“

ترجمہ: ”جن حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ مالی سزا منسوخ ہے، انہوں نے انہ کے مذاہب کی بناء پر روایت اور استدلال ہر دو اعتبار سے غلطی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے منسوخ ہونے کا

^۱ لہ بداية المجتهد: ۴۰/۲

تہ وخلع سے مراد کسی شرعی یا طبعی رکاوٹ کے بغیر میاں یہوی کا تھا ہو جانا ہے۔

تہ لغوی معنی سماں کے ہیں، یہاں کم از کم تین کپڑے، دو پٹہ، کرتا اور پائچا مارا دے۔

تہ فقه السنۃ: ۵۹۲/۲. ۵۹۳ التعزیر بأخذ المال۔ ۲۴۱ بقرہ۔

دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے، جو لوگ شخص کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ سنت ہے اور نہ اجماع ہے جو ان کے دعویٰ کو صحیح قرار دے۔“

میں اپنی اس تحریر کو فقہ حنفی کے بلند پایہ ناقد اور محقق ابن نجیم مصری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰٰنَ کے بیان پر ختم کرتا ہوں کہ:

”وَفِي الْخَلَاصَةِ سَمِعْتُ مِنْ ثَقَةٍ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ أَنَّ رَأْيَ الْقَاضِيِّ ذَلِكَ أَوْ
الْوَالِيِّ جَازٌ وَمِنْ جَمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ بِأَخْذِ الْمَالِ
لَهُ۔“^۱

تَرْجِمَة: ”خلاصہ میں ہے کہ قاضی یا والی کی صوابدیہ کے مطابق مالی تعزیر جائز ہے اور اسی کے متحملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی (نماز کی) جماعت میں نہ آتا ہو، تو مال لے کر اس کی تعزیر جائز ہے۔“

